

فقہی مقالات



جلد ۴

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

قضاء عمری کی حقیقت
اسلام میں تصویر کا حکم
پردہ اور اس کی شرعی حدود
جیلوں، چھاؤنیوں اور ایئر پورٹ پر نماز جمعہ
جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور حکم
غیر مسلم مالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم
حرام اشیاء سے علاج کا حکم
جانوروں کے ذبح کے احکام

میراث پبلشرز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

پیش لفظ

الحمد للہ ”فقہی مقالات“ کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو استاذ مکرم حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے فقہ کے موضوع پر لکھے گئے جدید مقالات پر مشتمل ہے، سابقہ جلد کی طرح اس جلد میں بھی بیشتر مقالات وہ ہیں جو اول حضرت مدظلہم نے عربی زبان میں تحریر فرمائے، اور احقر نے ان کو اردو کے قالب میں منتقل کر دیا، اور بعض مقالات ایسے ہیں جو حضرت استاذ مکرم مدظلہم نے براہ راست اردو میں تحریر فرمائے۔ ان مقالات کی تفصیل ذیل میں پیش ہے:

﴿۱﴾ ”قضاءِ عمری کی حقیقت“ یہ درحقیقت ایک سوال کا تفصیلی جواب

ہے، ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اپنے درس میں یہ بیان کرتی ہیں کہ ”قضاءِ عمری“ کو ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ ان کی طرف سے صرف توبہ کر لینا کافی ہے، کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ ان صاحب کے اس

سوال کے جواب میں حضرت والا مدظلہم نے یہ تفصیلی جواب تحریر فرمایا۔

﴿۲﴾ ”جیلوں، چھاؤنیوں اور ایئرپورٹ پر نماز جمعہ“ یہ بھی درحقیقت ایک سوال کا تفصیلی جواب ہے۔ جو ایک صاحب نے ”جیل“ میں قیدیوں کے نماز جمعہ پڑھنے کے بارے میں کیا تھا۔ اس سوال کا تفصیلی جواب حضرت والا نے تحریر فرمایا، اور جیل کے علاوہ فوجی چھاؤنیوں اور ایئرپورٹ پر جمعہ کی نماز قائم کرنے کا حکم بھی تحریر فرمایا ہے۔

﴿۳﴾ ”پردہ اور اس کی شرعی حدود“ یہ مقالہ حضرت والا مدظلہم نے ”تکملة فتح الملہم“ (ج ۴ ص ۲۶۱) میں مسئلہ ”حجاب المرأة و حدودہ“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا، احقر نے عام استفادہ کے لئے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔

﴿۴﴾ ”اسلام میں تصویر کا حکم“ یہ مقالہ بھی حضرت والا مدظلہم نے ”تکملة فتح الملہم“ (ج ۴ ص ۱۵۵) میں ”مسئله التصوير فى الاسلام“ کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا۔ احقر نے اس کو عام استفادہ کے لئے اردو کا جامعہ پہنچا دیا۔

﴿۵﴾ ”حرام اشیاء سے علاج کا حکم“ یہ مقالہ بھی حضرت والا مدظلہم نے ”تکملة فتح الملہم“ (ج ۲ ص ۳۰۱) میں ”مسئله التداوى بالمحرم“ کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا۔ احقر نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿۶﴾ ”جانوروں کے ذبح کے احکام“

﴿۷﴾ ”جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور حکم“

﴿۸﴾ ”غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم“

یہ تینوں مقالات حضرت والا مدظلہم نے اپنی تفصیلی مقالے ”احکام الذبائح و اللجوم المستوردة“ میں تحریر فرمائے تھے۔ یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیة معاصرة“ میں شائع ہو چکا ہے۔ احقر نے استفادہ عام کے لئے اس کا ترجمہ کر دیا۔

حضرت والا مدظلہم کے بے شمار مفید موضوعات پر مقالات عربی میں موجود ہیں، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بقیہ مقالات کو بھی اردو کا جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاکہ ان کا فائدہ عام اور تمام ہو جائے۔ آمین۔

محمد عبداللہ میمن

سابق استاذ دارالعلوم کراچی

۳ رزی الحجہ ۱۴۲۳ھ

اجمالی فہرست فقہی مقالات

صفحہ	مضامین
۱۳	۱۔ قضاء عمری کی حقیقت
۲۹	۲۔ جیلوں، چھاؤنیوں اور انٹیرپورٹ پر نماز جمعہ
۳۹	۳۔ پردہ اور اس کی شرعی حدود
۸۹	۴۔ اسلام میں تصویر کا حکم
۱۳۵	۵۔ حرام اشیاء سے علاج کا حکم
۱۵۳	۶۔ جانوروں کے ذبح کے احکام
۲۵۱	۷۔ جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور حکم
۲۹۱	۸۔ غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

پردہ اور اس کی شرعی حدود

۳۲

شرعی پردے کے تین درجے

۳۲

پہلا درجہ

۳۴

دوسرا درجہ

۳۴

تیسرا درجہ

۳۴

پہلا درجہ اصل ہے اور اس کا ثبوت

۵۰

جاب کے دوسرے درجے کا ثبوت

۵۲

حضرات صحابیات اور پردہ

۵۸

جاب کے تیسرے درجے کا ثبوت

۶۶

عورت کی طرف دیکھنے کے مسئلے میں احناف کا مذہب

۷۳

مالکیہ کا مذہب

۷۵

شافعیہ کا مذہب

۷۶

حنابلہ کا مذہب

۸۷

خلاصہ

اسلام میں تصویر کا حکم

۹۱ احادیث میں تصاویر کی ممانعت

۱۰۱ تصاویر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور ان کا تعامل

۱۰۶ فقہاء کے مذاہب

۱۲۳ عکسی تصاویر (فوٹو) کا حکم

۱۳۰ ضرورت کے وقت تصویر کھچوانا

۱۳۲ ٹی وی اور وڈیو

حرام اشیاء سے علاج کا حکم

۱۳۷ حدیث عربین

۱۳۸ حنا بلہ کا مذہب

۱۳۹ شوافع کا مذہب اور ان کی دلیل

۱۴۰ مالکیہ کا مذہب

۱۴۲ احناف کے مذاہب اور ان کے استدلال

۱۴۴ اکثر مشائخ حنفیہ کا فتویٰ اور ان کے دائل

۱۴۷

حرام اشیاء سے علاج ناجائز ہونے پر استدلالات

۱۵۱

تداوی بالمحرم کے جواز کے قائل ائمہ کی طرف سے جواب
جانوروں کے ذبح کے احکام

۱۶۱

شرعی ذبح اور اس کی شرائط

۱۶۳

الف۔ حیوان کی روح نکالنے کا طریقہ

۱۷۳

آلہ ذبح

۱۷۵

جانور کی رگیں کاٹے بغیر روح نکالنا

۱۸۰

ب۔ ذبح کے وقت ”بسم اللہ“ پڑھنا

۲۰۵

ج۔ ذابح کی شرائط

۲۱۱

اہل کتاب کے ذبیحہ کا مسئلہ

۲۱۳

اہل کتاب کیلئے مشروع طریقے پر جانور ذبح کرنا

۲۱۶

پہلی دلیل

۲۱۸

دوسری دلیل

۲۱۸

تیسری دلیل

۲۱۹

چوتھی دلیل

۲۲۷

پانچویں دلیل

۲۲۸

چھٹی دلیل

۲۲۹	ساتویں دلیل
۲۳۱	کیا کتابی کے ذبیحہ میں "تسمیہ" شرط ہے؟
۲۳۱	پہلا قول
۲۳۵	دوسرا قول
۲۳۷	تیسرا قول
۲۳۹	ان مادہ پرست اور دہرین کے ذبیحہ کا حکم جو اپنے آپ کو "نصاری" کہتے ہیں
۲۴۲	ذبح کے مجہول ہونے کی صورت میں اس کے ذبیحہ کا حکم
۲۴۸	﴿۲﴾ دوسری صورت
۲۴۸	﴿۳﴾ تیسری صورت
۲۴۹	﴿۴﴾ چوتھی صورت
جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور حکم	

۲۵۲	مرغی ذبح کرنے کا طریقہ
۲۵۹	پہلا مسئلہ
۲۶۰	دوسرا مسئلہ
۲۶۱	تیسرا مسئلہ
۲۶۳	چوتھا مسئلہ
۲۶۴	پانچواں مسئلہ

۲۶۴	چھٹا مسئلہ
۲۶۹	پہلا اشکال
۲۶۹	دوسرا اشکال
۲۷۰	تیسرا اشکال
۲۷۵	گرم پانی سے مرغی گزارنا
۲۷۹	مرغی کے مشینی ذبح کی مندرجہ بالا بحث کے نتائج
۲۷۹	﴿۱﴾ پہلی خرابی
۲۷۹	﴿۲﴾ دوسری خرابی
۲۸۰	﴿۳﴾ تیسری خرابی
۲۸۰	﴿۴﴾ چوتھی خرابی
۲۸۰	پہلی ترمیم
۲۸۱	دوسری ترمیم
۲۸۱	تیسری ترمیم
۲۸۳	جانور کو بے ہوش کرنے کے طریقے
۲۸۷	بیہوشی کے بعد ذبح کئے گئے جانور کا حکم

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم

۲۹۷

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کے

۲۹۹

بارے میں ٹھہرتے کبار العلماء کی قرارداد

خلاصہ

۳۰۴

برآمد شدہ گوشت کی مشکل کا حل

۳۰۷

بحث کا خلاصہ

۳۱۳

سفارشات

قضاء عمری کی حقیقت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ مبین

مبین اسلامک پبلشرز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ
الْقُرْآنَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ
الْقُرْآنَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ

قضاءِ عمری کی حقیقت

ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ درسِ قرآن دیتے ہوئے اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ ”قضاءِ عمری“ کا جو مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت عرصے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں، پھر وہ نماز شروع کرے تو اُسے قضاءِ عمری کے طور پر وہ نمازیں قضاء کرنی چاہئیں، قرآن و سنت میں اسکی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بلکہ کچھلی زندگی میں جو نمازیں قضاء ہوئی ہوں، انکی تلافی صرف توبہ سے ہو جاتی ہے، اتنی ساری نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ براہِ کرم یہ واضح فرمائیں کہ کیا شریعت میں کچھلی نمازوں کی قضاء واقعی ضروری نہیں ہے؟ اور کیا ائمہ اربعہ یا فقہاء کرام میں سے کسی کا مذہب یہ ہے کہ نمازیں زیادہ قضاء ہو جائیں تو ان کی تلافی صرف توبہ سے ہو جاتی ہے، اور قضاءِ عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے تو کیا ان کے درس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ نیز اگر قضاءِ عمری ضروری ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟..... (محمد رضوان، کراچی)

الجواب حامدًا و مصليًا

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالکؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا
ذَلِكَ

جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اس پر لازم ہے کہ جب بھی اسے یاد

آئے، وہ نماز پڑھے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب
المواقیات، باب نمبر ۳۷۷ حدیث ۵۹۷)

صحیح مسلم میں آپ ﷺ کا ارشاد ان الفاظ میں مروی ہے:

اذا رقد احدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا
ذكرها فإن الله عز وجل يقول: أقيم الصلاة لِيَذْكُرِي
جب تم سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے تو
جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
أقيم الصلاة لِيَذْكُرِي (میری یاد آنے پر نماز قائم کرو)۔ (صحیح مسلم،
آخر کتاب المساجد، حدیث نمبر ۱۵۶۹)

اور سنن نسائی میں مروی ہے:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل
يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن
يصلبها اذا ذكرها

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا
جو نماز کے وقت سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے آپ ﷺ
نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اسے نماز یاد آئے وہ نماز
پڑھے۔ (سنن النسائی، کتاب المواقیات، باب فیمن نام عن صلاة
ص ۱۷۱ ج)

ان احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب
کبھی انسان کوئی نماز وقت پر نہ پڑھے تو اس کے ذمے لازم ہے کہ تنحبہ ہونے پر اسکی
تقضاء کرے، خواہ یہ نماز بھول سے چھوٹی ہو، سو جانے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے۔
صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایتوں میں اس موقع پر آپ ﷺ نے آیت قرآنی اَقيم
الصلاة لِيَذْكُرِي کا حوالہ دیکر یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ آیت قرآنی نماز کی قضاء پڑھنے

کے حکم کو بھی شامل ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ادا کرنے پر متنبہ ہو، اُسے نماز ادا کرنی چاہئے۔

یہ اصول بیان کرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی کہ اتنی تعداد میں نمازوں کی قضا واجب ہے، چنانچہ جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ کی کئی نمازیں چھوٹیں تو آپ ﷺ نے سب کی قضا فرمائی جس کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے، اس موقع پر بھی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں تو ان کی قضا واجب نہیں۔ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ قرآن و سنت کی طرف سے جب کوئی عام حکم آجاتا ہے تو اسکے ہر ہر جزئیے کیلئے الگ حکم نہ دیا جاسکتا ہے، نہ اسکی ضرورت ہے، مثلاً قرآن کریم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کرنے کا بعد یہ فرما دیا ہے کہ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی کنتی
پوری کرے۔

اس آیت کریمہ میں یہ عام حکم دیدیا گیا ہے کہ جب روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ رکھے جاسکے ہوں تو بعد میں انکی قضا کر لی جائے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا، نہ اسکے بتانے کی ضرورت تھی کہ ایک رمضان کے روزے چھوٹنے کا یہ حکم ہے یا دو رمضانوں کے روزے چھوٹنے کا، بلکہ ایک عام حکم دیدیا گیا ہے جو روزے چھوٹنے کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اب اگر کسی شخص کے دو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور وہ اس دلیل کا مطالبہ کرے کہ دو رمضان کے روزے چھوٹنے کیلئے کوئی الگ حکم ہونا چاہئے تو جس طرح اس کا مطالبہ غلط اور جاہلانہ مطالبہ ہوگا، اسی طرح زیادہ نمازوں کی قضا کیلئے الگ دلیل کا مطالبہ بھی اتنا ہی غلط مطالبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عام حکم سے استثناء کا دعویٰ کرے تو دلیل اسکے ذمہ ہے کہ

قرآن و سنت کی کسی دلیل سے مستثنیٰ ہونا ثابت کرے، ورنہ جب تک قرآن و سنت میں کوئی استثناء مذکور نہ ہو، عام حکم اپنی جگہ قائم رہے گا۔

چنانچہ نمازیں قضا پڑھنے کا جو حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث میں دیا ہے اسکی بنیاد پر تمام فقہائے امت نے تصریح فرمائی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کتنی زیادہ ہوں، اُن کی قضاء ضروری ہے۔ مشہور حنفی عالم علامہ ابن نجیمؒ تحریر فرماتے ہیں:

فالأصل فيه أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها، سواء تركها عمداً أو سهواً أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة۔ (البحر الرائق ص ۱۴۱ ج ۲، طبع مکہ مکرمہ)

اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد چھوٹ گئی ہو، اُس کی قضاء لازم ہے، چاہے انسان نے وہ جان بوجھ کو چھوڑی ہو یا بھول کر، یا نیند کی وجہ سے، اور چاہے چھوٹی ہوئی نمازیں کم ہوں یا زیادہ ہوں۔

یہ موقف صرف حنفی علماء کا نہیں ہے، بلکہ شافعی، مالکی، حنبلی تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

من نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته، وليذهب إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقى عليه حتى يأتي على جميع مانسئ أو ترك۔ (المدونة الكبرى للإمام مالك ص ۲۱۵ ج ۱)

جو شخص بہت سی نمازیں پڑھنا بھول گیا ہو، یا اس نے بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں، اُس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ چھوڑی

ہوئی نمازیں پڑھے، اور اپنی ضروریات کیلئے چلا جائے لیکن جب ضروریات سے فارغ ہو تو پھر باقی نمازیں پڑھتا رہے، یہاں تک کہ وہ تمام نمازیں پوری کر لے جو وہ بھول گیا تھا یا اس نے چھوڑ دی تھیں۔

امام مالکؒ کے اس قول کی تشریح اور مزید تفصیل کرتے ہوئے مالکی عالم علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فيكفي أن يقضى في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم، وفي أجوبة ابن رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معالجة الموت، وحيث أن فيحوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاقه بها فيها۔ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص ۲۶۳ ج ۱)

اتنا کافی ہے کہ ایک دن میں دو دن یا زیادہ کی نمازیں قضا کر لے، اور یہ کافی نہیں ہے کہ ایک دن میں صرف ایک دن کی نمازیں قضا کرے، الا یہ کہ اسے ایک دن سے زیادہ نمازیں قضا کرنے کی صورت میں اپنے عیال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو..... اور علامہ ابن رشدؒ کے جوابات میں یہ مذکور ہے کہ قضا پڑھنے میں جلدی کرنا حکم اس خطرے کی بنا پر دیا گیا ہے کہ موت نہ آجائے، لہذا اتنی مدت تک مؤخر کرنا جائز ہے جس میں غالب گمان یہ ہو کہ اس میں نمازیں پوری ہو جائیں گی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں بھی قریب قریب یہی بات کہی گئی ہے، علامہ مرداویؒ جو امام احمدؒ کے مذہب کے قابل اعتماد ترین ناقل ہیں، فرماتے ہیں:

(ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور) هذا

المذہب نص علیہ وعلیہ جماہیر الأصحاب وقطع بہ
 کثیر منهم..... قوله "لزمه قضاؤها علی الفور" مقید بما
 إذلم يتضرر فی بدنه أو معیشتہ یحتاجها، فإن تضرر
 بسبب ذلك سقطت الفورية (الانصاف للمرداوی ص ۴۴۲
 ج ۱)

اور جس شخص کی بہت نمازیں چھوٹ گئی ہوں، اس پر ان کی فی الفور قضا
 کرنا واجب ہے۔ یہی مذہب ہے جس کی تصریح کی گئی ہے اور حنبلی
 اصحاب کی بھاری اکثریت کا یہی کہنا ہے (کہ قضا نمازیں فوراً ادا کرنی
 ضروری ہیں) اور بہت سوں نے قطعی طور پر یہی کیا ہے..... البتہ فوری
 ادائیگی کا لازم ہونا اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو
 جسم یا ضروری معیشت میں نقصان نہ ہو، اگر نقصان ہو تو فوری ادائیگی کا
 حکم ساقط ہو جائے گا (بلکہ تاخیر سے ادا کرنا جائز ہوگا)۔

مام شافعی کے یہاں یہ تفصیل ہے کہ اگر نمازیں کسی عذر سے چھوٹی تھیں تو
 فوری ادائیگی کے بجائے تاخیر سے ادا کرنا جائز ہے، لیکن کسی عذر کے بغیر چھوٹی
 تھیں تو فوراً ادا کرنا ضروری ہے:

(من فاتته) (مکتوبہ) فاکثر (قضی) ما فاتہ بعذر
 أو غیرہ، نعم غیر المعذور یلزمہ القضاء فوراً، ویظہر أنه
 یلزمہ صرف جمیع زمنہ للقضاء ماعد اما یحتاج لصرفه
 فیما لا بدمنہ۔ (فتح الحواد ص ۲۲۳ ج ۱)

جس شخص کی ایک یا زیادہ فرض نمازیں چھوٹ گئی ہوں، اس پر ضروری ہے
 کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء کرے، چاہے نمازیں کسی عذر سے
 چھوٹی ہوں یا بغیر عذر کے۔ ہاں جس شخص نے بغیر کسی عذر کے نمازیں
 چھوڑی ہوں اس پر قضاء فوری طور سے واجب ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس
 کو اپنا پورا وقت قضاء پڑھنے میں صرف کرنا چاہئے، سوائے اتنے وقت

کے جو اسے اپنی لازمی ضروریات کیلئے درکار ہو۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے بھی فقہاء کرامؒ کے یہ مذاہب نقل کر کے ان سے اتفاق کیا ہے، فرماتے ہیں:

ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضاءها على الفور
سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء كمالك
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وكذلك الراجح في
مذهب الشافعي أنها. إذا فاتت عمدا كان قضاؤها
واجبا على الفور (فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیہ ص ۲۵۹ ج ۲۳)
جس شخص کے ذمے کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اسے
ادا کرنے میں فوری طور سے جلدی کرے، چاہے وہ نماز جان بوجھ کر
چھوڑی ہو یا بھول سے۔ یہی جمہور علماء مثلاً امام مالک، امام احمد اور امام
ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ اور امام شافعیؒ کے مذہب میں بھی راجح یہی ہے کہ
اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ:

رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصلها بسننها؟ أم
الفريضة وحدها؟
جس شخص کے ذمے بہت سی نمازیں قضاء ہوں، وہ انہیں ادا کرتے ہوئے
سنتیں بھی پڑھے؟ یا صرف فرض پڑھے؟

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

المسارعة إلى قضاء الفوات الكثیرة أولى من الاشتغال
عنها بالنوافل. وأما مع قلة الفوات فقضاء السنن معها
حسن۔

ص ۱۰۴ ج ۲۲)

جب چھوٹی ہوئی نمازیں بہت ساری ہوں تو ان کو قضا کرنا نفلوں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ البتہ اگر چھوٹی ہوئی نمازیں کم ہوں تو ان کے ساتھ سنتوں کو قضا کرنا اچھا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہاء کرامؒ کے درمیان یہ مسئلہ تو زیر بحث آیا ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء منبہ ہوتے ہی فوراً واجب ہو جاتی ہے، یا اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، اور تاخیر کی صورت میں کتنی نمازیں روزانہ قضا کرنی ضروری ہیں، نیز یہ کہ صرف فرض نمازیں قضاء کی جائیں یا سنتیں بھی؟ اور قضا کرتے ہوئے نمازوں میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن اس مسئلے میں معروف فقہاء کرامؒ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازیں خواہ کتنی زیادہ ہوں، ان کی قضاء انسان کے ذمے واجب ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کی آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ منبہ ہونے پر انسان چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنے کی فکر کرے۔ اور قرآن و سنت کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو زیادہ نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہ ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ یوں بھی یہ عجیب و غریب موقف ہے کہ جو شخص کم نمازیں قضا کرے اس پر تو ادائیگی واجب ہو، لیکن زیادہ نمازیں چھوڑنے والے پر کچھ واجب نہ ہو؟ پھر کون ہے جو کم نمازوں اور زیادہ نمازوں کی تعداد مقرر کر کے یہ کہے کہ اتنی نمازوں کے بعد قضاء واجب نہیں۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان پر بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فریضہ تمام شرعی فرائض میں سب سے زیادہ مؤکد اور اہم ہے، اور یہ بھی ایک مسلم اصول ہے کہ اگر کوئی فریضہ قطعی دلائل سے ثابت ہو تو اُسے انسان کے ذمہ سے ساقط کرنے کیلئے کم از کم اتنے ہی مضبوط قطعی دلائل کی ضرورت

ہوتی ہے، اور یہاں قطعی دلائل تو درکنار، کوئی کمزور سے کمزور دلیل بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکے کہ جو نمازیں انسان کے ذمہ فرض ہوئی تھیں، اسکی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کی فرضیت ختم ہوگئی ہے۔

لہذا یہ کہنا کہ اگر فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں تو ان کی قضاء لازم نہیں، قرآن و سنت کے واضح دلائل اور ان پر مبنی فقہاء امت کے اتفاق کے بالکل خلاف ایک گمراہانہ بات ہے، اور نماز جیسے اہم فریضے کو محض اپنی رائے کی بنیاد پر ختم کر دینے کے مرادف ہے۔ اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ فوت شدہ نمازوں کیلئے بس توبہ کر لینا کافی ہے، اس لئے کہ توبہ کی قبولیت کی لازمی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کی جتنی تلافی بس میں ہو، وہ تلافی بھی ساتھ ساتھ کرے۔

قضاء عمری کی موضوع احادیث

یہاں یہ واضح کر دینا بھی مناسب ہے کہ اصول حدیث کی بعض کتابوں میں موضوع احادیث کی علامتیں بیان کرتے ہوئے قضاء عمری کی حدیث کی مثال دی گئی ہے۔ مثلاً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی پانچویں علامت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

پنجم آنکہ مخالف مقتضی عقل و شرع باشد و قواعد شرعیہ آن را تکذیب نمایند، مثل قضاء عمری۔

یعنی: پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ حدیث عقل و شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہو اور قواعد شرعیہ اسکی تکذیب کرتے ہوں مثلاً قضاء عمری کی حدیث۔ (چالہ تافہ ص ۲۳ خاتمہ)

ہوسکتا ہے کہ کسی نادان یا جاہل آدمی کو اس سے یہ مغالطہ ہو کہ پچھلی عمری نمازیں قضاء کرنا بے اصل ہے اور اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں، وہ موضوع

ہیں۔ اس لئے یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض غیر مستند وظائف وغیرہ کی کتابوں میں کچھ ایسی موضوع حدیثیں آگئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی خاص دن میں صرف ایک نماز قضاء پڑھی جائے تو اس سے ستر سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ محدثین اس قسم کی روایات کو قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، اور ان احادیث کو انہوں نے موضوع قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”موضوعات“ پر اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

حدیث ”من قضی صلاة من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاة فاتتہ فی عمره الی سبعین سنة“ باطل قطعاً، لانه مناقض للإجماع علی أن شیئا من العبادات لا یقوم مقام فاتتہ سنوات۔“

یہ روایت کہ ”جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز قضا پڑھے تو ستر سال تک اسکی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں، ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے“ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس لئے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سا لہا سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔“ (الموضوعات الکبریٰ ص ۳۵۶)

اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حدیث ”من صلی فی آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة فی الیوم واللیلة قضت عنه ما أحل بہ من صلاة سنتہ“ هذا موضوع لا إشکال فیہ۔

”یہ حدیث کہ ”جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں دن رات کی پانچ فرض نمازیں پڑھے، ان سے اسکے سال بھر کی جتنی نمازوں میں خلل رہا ہو، ان سب کی قضاء ہو جاتی ہے“ کسی شک کے بغیر موضوع ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی مذکورہ بالا عبارت میں قضاء عمری کی جن روایات کو موضوع قرار دیا گیا ہے، ان سے مراد قضاء عمری کے بارے میں اس قسم کی روایات ہیں جو ایک نماز یا چند نمازوں کو عمر بھر کی نمازوں کے قائم مقام قرار دیتی ہیں، اور علاوہ اس کے کہ اس قسم کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے موضوع ہونے کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک یا چند نمازیں سالہا سال کی فوت شدہ نمازوں کی تلافی نہیں کر سکتیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ لہذا اگر کسی کو ان احادیث کو موضوع قرار دینے سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ قضاء عمری کا تصور ہی بے بنیاد ہے اور پچھلی نمازوں کی قضا لازم نہیں تو اسکا منشا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔

قضاء عمری کا صحیح طریقہ

قرآن و سنت اور فقہائے کرامؒ کے اتفاق کی روشنی میں یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتدا میں نمازیں اپنی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اُسے تنبیہ اور توبہ کی توفیق ہو، اسکے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا محتاط حساب لگا کر انہیں ادا کرنے کی فکر کرے۔ امام مالکؒ، امام احمدؒ اور امام شافعیؒ تینوں بزرگ تو اس بات پر متفق ہیں کہ اگر نمازیں کسی عذر کے بغیر چھوڑی ہیں تو تنبیہ ہونے کے بعد اسکا فرض ہے کہ وہ ان نمازوں کی ادائیگی فوراً کرے، اور صرف ضروری حاجتوں کا وقت اس سے مستثنیٰ ہوگا، لیکن فقہاء حنفیہ نے کہا ہے کہ چونکہ انسان اپنی وسعت کی حد تک ہی کا مکلف ہے اس لئے قضا نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر جائز ہے جو انسان کی معاشی اور دوسری حاجتوں کو پورا کرنے کیلئے درکار ہو۔ درمختار میں ہے:

(ویحوز تأخیر الفوائت) وإن وجبت علی الفور (لعذر)

السعی علی العیال وفی الحوائج علی الأصح (ص ۵۳۳)
(۱۷)

چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء پڑھنے میں تاخیر جائز ہے، اگرچہ ان کا
وجوب علی الفور ہوتا ہے، مگر عیال کیلئے معاش کے انتظام اور دوسری
حاجتوں کے عذر کی وجہ سے تاخیر کی جاسکتی ہے۔

چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں:

فیسعی ویقضى ما قدر بعد فراغه، ثم وثم إلى أن تتم
لهذا ایسا شخص اپنے کام کرتا رہے اور فارغ ہونے کے بعد جتنی
نمازیں پڑھ سکے، قضا کرتا رہے، یہاں تک کہ تمام نمازیں پوری
ہوجائیں۔ (ایضاً)

بعض علماء نے مزید آسانی کیلئے یہ طریقہ بتایا ہے کہ انسان روزانہ ہر فرض نماز کے
ساتھ اسی وقت کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کرے، اس طرح ایک دن میں پانچ نمازیں ادا
ہوجائیں گی، البتہ جب موقع ملے اس سے زیادہ بھی پڑھتا رہے وہ فرماتے ہیں:

وفوره مع کل فرض فرض، إذلم یجب فی الیوم أداء
أكثر من خمس، فكذا القضاء، فإن زاد أوجع الخمس
فحسن۔

(البحر الزخار لأحمد ابن المرثی ص ۱۷۳)

ج ۱ طبع صنعا)

اور قضا نمازوں کی فوری ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض کے ساتھ ایک
فرض پڑھا جائے، کیونکہ ایک دن میں پانچ سے زیادہ نمازیں اداء میں
ضروری نہیں تو قضا کو بھی اس پر قیاس کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی زیادہ
نمازیں پڑھے یا پانچ نمازیں اکٹھی پڑھے تو اچھا ہے۔

البتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے، یعنی واضح طور پر قضا کی نیت کی

جائے، مثلاً فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلی نماز واجب ہے، اسکی قضا پڑھ رہا ہوں۔

نمازوں کا فدیہ

قرآن کریم میں روزوں کا فدیہ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جو لوگ روزے رکھنے کی بالکل طاقت نہ رکھتے ہوں، نہ آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید ہو، ان کیلئے قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ وہ ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ لیکن نماز کیلئے قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسا کوئی حکم مذکور نہیں ہے۔ البتہ امام محمدؒ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وہ انہیں ادا نہ کر پارہا ہو، اسے چاہئے کہ وہ یہ وصیت کر دے کہ اگر میں یہ نماز ادا نہ کر پایا، اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اور وہ فدیہ بھی روزے کے فدیہ کے حساب سے، یعنی ایک نماز کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا (یا پونے دو سیر گندم یا اسکی قیمت کا صدقہ) ادا کیا جائے۔ امام محمدؒ نے یہ حکم احتیاط کے طور پر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگرچہ نمازوں کے فدیہ کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے مگر روزے پر قیاس کر کے یہ حکم نکالا گیا ہے، لہذا امید ہے کہ انشاء اللہ اس طرح انسان کی ذمہ داری پوری ہو جائیگی۔ (دیکھئے رد المحتار ص ۱۷۵۴)

لیکن یاد رہے کہ یہ وصیت ترکے کے ایک تہائی حصے تک نافذ ہوگی یعنی اگر روزوں یا نماز کا کل فدیہ اس کے کل مال کا ایک تہائی یا اس سے کم ہو تب تو ورثاء کے ذمے واجب ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کریں، اگر فدیہ کی مقدار ایک تہائی سے بڑھ گئی تو زائد مقدار میں وصیت پر عمل کرنا ورثاء کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے روزے یا نماز کے فدیہ کی وصیت نہ کی تو ورثاء کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ فدیہ ادا کریں۔ البتہ عاقل و بالغ ورثاء اپنے حصے میں سے رضا

کارانہ طور پر فدیہ ادا کر دیں تو یہ اُن کا احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ مرحوم کو معاف فرمادینگے۔

خلاصہ

یہ ہے کہ انسان سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں اُن کی قضاء اسکے ذمہ لازم ہے، صرف توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتیں، خواہ کتنی زیادہ ہوں۔ البتہ وہ اگر روزانہ پانچ نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے اور جب زیادہ پڑھنے کا موقع ملے زیادہ بھی پڑھے اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کر دے کہ جو نمازیں میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکوں ان کا فدیہ میرے ترکے سے ادا کیا جائے، تو امید ہے کہ انشاء اللہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اسکی کوتاہی کو معاف فرمادینگے۔ قضاء عمری کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور یہ کہنا کہ قضاء عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف توبہ کافی ہے، گمراہی کی بات ہے، اور جو شخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں محض اپنی رائے سے کسی دلیل کے بغیر اس قسم کی گمراہانہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اُس کے درس پر ہرگز پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بندہ محمد تقی عثمانی عفی عنہ

دارالافتاء دارالعلوم کراچی ۱۳

۱۳/ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

جیلوں، چھاؤنیوں اور ایر پورٹ

پر نماز جمعہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ مبین

مبین اسلامک پبلشرز

وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ

جیلوں، چھاؤنیوں اور ایئر پورٹ پر

نماز جمعہ

میں نے اپنے یمن کے سفر نامے میں جو البلاغ کے ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ کے شمارے میں شائع ہوا ہے، برسمیل تذکرہ دیی ایئر پورٹ پر نماز جمعہ ادا کرنے کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ ”اذن عام“ کی جو شرط فقہاء کرامؒ نے صحت جمعہ کیلئے ضروری قرار دی ہے اسکا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس بڑے علاقے میں نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں کے لوگوں کو جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہو، خواہ اس بڑے علاقے میں باہر کے لوگوں کو انتظامی یا دفاعی اسباب کی بنا پر داخلے کی عام اجازت نہ ہو۔

اس سفر نامے کے شائع ہونے کے بعد بعض حضرات نے مجھے خط میں لکھا کہ اس مسئلے کی تفصیلی وضاحت شائع ہونی چاہئے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک فتویٰ اس موضوع پر لکھا تھا جو ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ کچھ ترمیم و اضافہ کے ساتھ اسے شائع کر دیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں وہ فتویٰ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح دینی چاہئے کہ اس فتوے کا اطلاق صرف ایسے ایئر پورٹ پر ہو سکتا ہے جو شہر کے اندر واقع ہو اور اتنا بڑا ایئر پورٹ ہو جس میں افراد کی ایک بڑی جماعت ہر وقت موجود رہتی ہو۔ دیی کا ایئر پورٹ ایسا ہی ہے۔

سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جیل خانوں میں قیدی

نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے میں متضاد باتیں سامنے آئی ہیں، اس لئے مسئلے کی تفصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ بینوا و توجروا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواز

جیل میں جمعہ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہاء مقدمین کی کتابوں میں کوئی صریح جزئیہ مذکور نہیں، اسی بناء پر اس مسئلے میں علماء عصر کے فتوے بھی مختلف رہے۔ اصل اشکال کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ نے جمعہ کے جواز کی شرائط میں اذن عام کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور چونکہ ”جیل“ میں داخلے کا اذن عام نہیں ہوتا، اس لئے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جمعہ جائز نہیں..... ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ صرف جیل کا نہیں، بلکہ ان تمام فوجی چھاؤنیوں، صنعتی آبادیوں اور ایر پورٹوں کا بھی ہے جہاں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لئے یہ تحقیق ضروری ہے کہ ”اذن عام“ کی شرط کس درجے کی ہے؟ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ”اذن عام“ کی شرط اس وقت تھی جب پورے شہر میں جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کا جمعہ فوت نہ ہو، لیکن جب ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ پڑھنے کا جواز ثابت ہوا، اور عملاً متعدد جگہوں پر جمعہ ہونے لگا تو اب چونکہ اس بات کا اندیشہ نہیں رہا کہ ”اذن عام“ کی عدم موجودگی کی وجہ سے کسی کا جمعہ فوت ہو جائے گا۔ اس لئے اب یہ شرط باقی نہیں رہی۔ یہ حضرات دلیل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ ذیل عبارت پیش کرتے ہیں:-

و کذا السطان إذا أراد أن یصلی بحشمہ فی دارہ، فان فتح بابہ وأذن للناس إذناً عاماً، حاز صلاحہ، شہدتہا العامة أولاً، وإن لم یفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب

وأجلس البوابين ليمنع عن الدخول، لم تحجز، لأن
اشتراط السلطان لتحرز تفويتها على الناس، وإذا لا
يحصل إلاّ بالاذن العام اهـ قلت: وينبغي أن يكون
محل النزاع ما اذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما
لو تعددت فلا، لأنه لا يتحقق التفويت، كما أفاده
التعليل، تأمل۔ (شامی ج ۲ ص ۱۰۲)

لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر ”اذن عام“ کی شرط کی وجہ سے صرف تفویت
جمعہ کا خوف ہو تو جس شہر میں متعدد مقامات پر جمعہ ہوتا ہو وہاں اگر کوئی شخص اپنے ذاتی
گھر میں دروازہ بند کر کے جمعہ کی جماعت کر لے تو وہ بھی جائز ہونا چاہئے..... اور یہ کہ
جب سے تعدد جمعہ کا رواج ہوا ہے اس وقت سے ”اذن عام“ کی شرط کو کتب فقہ سے
بالکل خارج ہو جانا چاہئے تھا..... یا اگر یہ شرط مذکور ہوتی تو ساتھ ہی یہ تصریح بھی ذکر
کرنی چاہئے تھی کہ اب یہ شرط واجب العمل نہیں..... حالانکہ فقہاء تعدد جمعہ کے رواج
کے باوجود اس شرط کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔

یہ اشکال خاص قوی ہے۔ لیکن کتب فقہ کی مراجعت کے بعد جو صورت حال نظر آتی ہے وہ
مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)..... اذن عام کی شرط ظاہر الروایۃ میں موجود نہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانی تحریر

فرماتے ہیں:-

وذكر في النواذر شرطاً آخر لم يذكره في ظاهر الرواية،
وهو اداء الجمعة بطريق الاشتهار، حتى أن أميرالوجمع
جيشه في الحصن وأغلق الأبواب وصلّى بهم الجمعة
لا تحجز لهم۔ (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۷۹)

چنانچہ صاحب ہدایہ نے بھی اذن عام کی ”شرط“ ذکر نہیں فرمائی، اسی طرح متعدد

فقہاء نے اس شرط کو ذکر نہیں کیا، جن میں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ علامہ
سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں۔ (ملاحظہ ہو: النصف فی الفتاویٰ ج ۱ ص ۹۰)

(۲)..... نوادر کی اس روایت کے مطابق فقہاء متاخرین نے یہ شرط اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”اذن عام“ کے مفہوم میں فقہاء کرام کا کچھ اختلاف رہا ہے، بعض حضرات نے تو اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس پر جمعہ فرض ہو اسے اس مقام پر آنے کی اجازت ضروری ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ برجنیدی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں:-

”ای أن يأذن للناس إذنا عامًا بأن لا يمنع أحدًا ممن
تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى،
وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتہار“۔ (شامی
ج ۲ ص ۱۵۱)

دوسری طرف بعض حضرات فقہاء کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”اذن عام“ کیلئے یہ بات کافی ہے کہ جس آبادی میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اس آبادی کے لوگوں کو وہاں آنے کی پوری اجازت ہو، خواہ باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، چنانچہ علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

”وفى فتح القدير: إن أغلق باب المدينة لم يحجز، وفيه
تأمل، فإنه لا يئنا فى الإذن العام لمن فى البلد، وأما من
فى خارج البلد فالظاهر أنهم لا يجبيون لإقامة
الجمعة، بل ربما يجبيون للشروالفساد“۔ (رسائل
الاركان، ص ۱۱۵)

نیز ”درمختار“ میں کہا گیا ہے کہ:-

فلا يضّرّ غلىّ باب القلعة لعدو اولعادة قديمة، لأن
”الإذن العام“ مقدر لأهله، وغلقه لمنع العدو لا
المصلّى، نعم: لو لم يغلّق لكان أحسن، كما فى مجمع
الأنهر“۔ (الدرالمختار ص ۱۵۲ ج ۲)

”مجمع الأنهر“ میں ہے:

”وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفاً من الأعداء، أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به، لأن ”الإذن العام“ مقدر لأهله، ولكن لو لم يكن لكان أحسن، كما في شرح عيون المذاهب..... وفي البحر والمنح خلافه، لكن ما قدرناه أولى، لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع، وعدم المنع، ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحها، ولأن غلق بابها لمنع العدو، لا لمنع غيره تدبّر۔ (مجمع الأنهر، ج ۱ ص ۲۴۶، بيروت)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات فقہاء کرام نے ”اذن عام“ کی شرط کو تقویت جمعہ کے خوف پر مبنی قرار دیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ ”اذن عام“ کا پہلا عام مفہوم اس علت کے ساتھ معلول تھا جو تعدد جمعہ کی صورت میں باقی نہیں رہا..... لیکن دوسرا مفہوم اب بھی باقی ہے، کیونکہ وہ اس علت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ بقول صاحب بدائع ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“ الخ کے اشارہ پر مبنی تھا، چنانچہ علامہ شرملا لى رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

”قلت: اطلعت على رسالة للعلامة ابن الشحنة، وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة، لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة، وليست مصرًا على حدثها۔ وأقول في المنع نظر ظاهر، لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة، و العلة مفقودة في هذه القضية، فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة، لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يدغب في طلوعها للجمعة، لوجودها فيما هو أسهل من التكلف

بالصعود لها، وفي كل محلة من المصرد عدة من
الخطب، فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند

قفلهما۔“ (مرانی الفلاح مع الطحطاوی ص ۲۷۸ قدیمی کتب خانہ)

اگرچہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ کی
اس بات پر اعتراض فرمایا ہے، لیکن علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا
ہے کہ تعدد جمعہ کی صورت میں ”اذن عام“ کا وہ عام مفہوم لینے کی ضرورت نہیں جس
کے تحت ہر وہ شخص جس پر جمعہ واجب ہو، اس کو وہاں آنے کی اجازت ہو، بلکہ اگر کوئی
ایسی آبادی موجود ہو، جس میں گھروں کی یارہنے والوں کی قابل لحاظ تعداد موجود ہو، اور
اس آبادی کے تمام لوگوں کو وہاں جمعہ کیلئے آئیگی اجازت ہو تو یہ بات ”اذن عام“ کے تحقق
کیلئے کافی ہے، بشرطیکہ اس آبادی کے باہر کے لوگوں کو آنے سے ممانعت کرنے کی وجہ
نماز سے روکنا نہ ہو، بلکہ کسی دفاعی یا انتظامی وجہ سے مجرد داخلے سے روکنا ہو۔

اگر علامہ شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا عبارت کا یہ مفہوم لیا جائے تو اس پر وہ
اعتراض وارد نہیں ہوگا جو علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وارد فرمایا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعدد جمعہ کی صورت میں ”اذن عام“
کی شرط فقہاء حنفیہ کے نزدیک بالکلیہ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس
آبادی میں (نہ کہ کسی انفرادی گھر میں) جمعہ پڑھا جا رہا ہے، اس آبادی کے لوگوں کو
وہاں آنے کی اجازت ہو، اگر آبادی سے باہر کے لوگوں کو دفاع یا انتظام کے پیش نظر
اس آبادی میں داخلے سے روکا گیا ہو تو یہ ”اذن عام“ کے منافی نہیں، بشرطیکہ روکنے کا
اصل محرک نماز سے روکنا نہ ہو، بلکہ کوئی دفاعی یا انتظامی ضرورت ہو، اور اس آبادی سے
باہر کے لوگ اس پابندی کی بنا پر جمعہ سے محروم نہ ہوتے ہوں۔

اس پر صرف ایک اشکال باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ
مجبورین کیلئے جمعہ کے دن اپنی علیحدہ ظہر کی جماعت کرنا مکروہ ہے (ہدایہ مع فتح القدیر ص
۳۵ ج ۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبورین کیلئے جمعہ جائز نہیں، ورنہ ان کو ظہر کی جماعت
کی حاجت ہی نہ ہوتی۔

لیکن اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ علامہ شامی اور علامہ شرنبلالی رحمہما اللہ کی عبارتوں کی روشنی میں یہ حکم اس دور کا ہے جب جمعہ ایک ہی جگہ سلطان کی قیادت میں ہوتا تھا، اور سلطان کی طرف سے دوسری جگہ اقامت جمعہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی..... اس کے علاوہ قید خانے بھی مختلف نوعیتوں کے ہوتے تھے، ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ قید خانہ ہو جو کسی ایک ہی گھریا ایک ہی احاطے پر مشتمل ہو، اور اس پر کسی مستقل آبادی کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔

ایک اور اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”بدائع“ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ

”السلطان اذا صلی فی فہندرة والقوم مع، امراء السلطان فی المسجد الجامع قال: ان فتح باب دارہ واذن للعامة بالدخول فی فہندرة جاز، و تكون الصلاة فی موضعین ولولم یأذن للعامة وصلی مع حیثہ لا تجوز صلاة السلطان، وجوز صلاة العامة۔ (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۶۹)

یہ مسئلہ تعدد جمعہ ہی کی صورت میں مفروض ہے، اس کے باوجود سلطان کے ”اذن عام“ نہ دینے کی صورت میں نماز جمعہ کو غیر منعقد قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بظاہر اس صورت سے مراد یہ ہے کہ سلطان اپنے محل میں صرف اپنے لشکریوں اور سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے اور باقی لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت نہ ہو، چنانچہ مذکورہ عبارت میں ان فتح باب دارہ الخ کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہاں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سلطان کا محل اس کی اپنی انفرادی جگہ ہے اور پیچھے گزر چکا ہے کہ انفرادی مقامات پر اس وقت تک جمعہ جائز نہیں ہوتا جب تک اسے عام لوگوں کیلئے کھول نہ دیا گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی آبادی ہے جس میں معتد بہ لوگ رہتے ہیں تو اُس کو اس جزئیہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ:-

(۱) اگر کسی شہر میں جمعہ کی اجازت حاکم کی طرف سے صرف ایک جگہ پڑھنے کی ہو تو جمعہ کی صحت کیلئے ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس پر جمعہ فرض ہے، اس کو وہاں آ کر جمعہ

پڑھنے کی عام اجازت ہو، ایسی عام اجازت کے بغیر جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔

(۲) اسی طرح اگر کسی کا کوئی انفرادی گھر، محل یا دوکان ہو تو اس میں بھی جمعہ پڑھنا اُس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک اس گھر، محل یا دوکان میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیدی گئی ہو، خواہ شہر میں دوسری جگہ بھی جمعہ ہوتا ہو۔

(۳) اگر کوئی آبادی ایسی ہے جس میں معتدبہ لوگ رہتے ہیں اور وہ شہر کے اندر بھی ہے، لیکن دفاعی، انتظامی یا حفاظتی وجوہ سے اُس آبادی میں ہر شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں کا داخلہ ان وجوہ کی بنا پر کچھ خاص قواعد کا پابند ہے تو اس آبادی کے کسی حصے میں ایسی جگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے جہاں اُس آبادی کے افراد کو آ کر جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو۔ مثلاً بڑی جیل، فوجی چھاؤنی، بڑی فیکٹریاں ایسے بڑے ایئر پورٹ جو شہر کے اندر ہوں اور ان میں سینکڑوں لوگ ہر وقت موجود ہوں لیکن اُن میں داخلہ کی اجازت مخصوص قواعد کی پابند ہو تو ان تمام جگہوں پر جمعہ جائز ہوگا بشرطیکہ وہ شہر میں واقع ہو اور بڑی فیکٹری، ایئر پورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے تمام افراد کو نماز کی جگہ آ کر نماز جمعہ پڑھنے کی کھلی اجازت ہو۔

واللہ سبحانہ اعلم

پردہ اور اس کی شرعی حدود

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

پردہ اور اس کی شرعی حدود

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

أَمَّا بَعْدُ!

آج کے دور میں خواتین کے پردہ کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے جس پر طویل گفتگو اور بحث ہوتی رہتی ہے، لہذا اس مسئلہ کا جو خلاصہ اور لبّ لبّاب ہے وہ یہاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ هو الموفق والمعین۔

ہمارے اس دور میں عورت کے پردے اور بے پردگی پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس موضوع پر لکھی جانے والی تمام کتابوں میں سب سے بہترین رسالہ وہ ہے جو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں لکھا ہے جو ”تفصیل الخطاب فی تفسیر آیات الحجاب“ کے نام سے ”احکام القرآن“ جلد ثالث کا جز بن کر شائع

ہو چکا ہے، اس رسالے میں حضرت والد صاحبؒ نے اس موضوع کی تمام آیات اور احادیث کو جمع فرما دیا ہے اور پردے کی حدود اور اس کی کیفیت کے بارے میں فقہاء کے مذاہب اور مفسرین کے اقوال کو بھی بیان فرمایا ہے۔

شرعی پردے کے تین درجے

اس رسالہ میں طویل بحث کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”شرعی پردہ“ جس کا قرآن و سنت میں حکم دیا گیا ہے، اس کے تین درجے ہیں (اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ اور ادنیٰ درجہ) اور ہر درجہ پردے اور ستر کے لحاظ سے دوسرے سے بلند اور اعلیٰ ہے اور فوقیت رکھتا ہے اور یہ تمام درجات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور ان میں سے کوئی درجہ منسوخ نہیں ہوا۔ البتہ مختلف حالات میں خواتین کی طرف مختلف درجات کا حکم متوجہ ہوتا رہتا ہے، وہ تین درجے مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلا درجہ

خواتین کا اپنے جسم کو گھر کی چار دیواری یا پردے اور ہودج وغیرہ میں اس طرح چھپانا کہ ان کی ذات اور ان کے لباس اور ان کی ظاہری اور چھپی زینت کا کوئی حصہ اور ان کے جسم کا کوئی حصہ چہرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ کسی اجنبی مرد کو نظر نہ آئے۔

دوسرا درجہ

خواتین کا برقع یا چادر کے ذریعہ اس طرح پردہ کرنا کہ چہرہ، ہتھیلیاں اور پورے جسم کا کوئی حصہ اور زینت کا لباس نظر نہ آئے بلکہ عورت کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا نظر آئے۔

تیسرا درجہ

خواتین کا چادر وغیرہ سے اس طرح پردہ کرنا کہ اس کا چہرہ، ہتھیلیاں اور اس کے قدم کھلے ہوئے ہوں۔

پہلا درجہ اصل ہے اور اس کا ثبوت

خواتین کے پردے میں اصل تو پہلا درجہ ہے۔ وہ یہ کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے (ضرورتوں کا بیان انشاء اللہ آگے آجائے گا) اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (سورة الاحزاب: ۳۳)

ظاہر ہے کہ یہ حکم ازواجِ مطہرات کے لئے خاص نہیں ہے، اس لئے کہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد جو احکام ہیں وہ بالاجماع امتہات المؤمنین کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ

حِجَاب - (سورة الاحزاب: ۵۳)

یعنی جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمہ کے موقع پر نازل ہوئی اور اسی وقت ان کے اور دوسرے مردوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا۔

اسی طرح مندرجہ ذیل احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں:

(۱) - عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المرأة

عورة، فاذا خرجت استشرفها الشيطان -

أخرجه الترمذی، وقال: حدیث حسن

صحیح غریب -

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔

ابن خزیمہ اور ابن حبان بھی اپنی اپنی صحیحین میں یہ حدیث لائے ہیں اور ان میں یہ اضافہ بھی ہے کہ:

وأقرب ماتکون من وجه ربها وهي في قعر بيتها -

یعنی عورت جب تک اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ دیکھئے: (الترغیب للمندری ج ۱ ص ۱۳۶)

(۲) - عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان المرأة تقبل فی صورة شیطان وتدبر فی صورة شیطان۔
(مسلم: ج ۱: ۱۲۹)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔

(۳) عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: خرجت سودة رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد ما ضرب علیہا الحجاب لتقضى حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرأها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال: يا سودة! واللہ ماتخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفات راجعة و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتي وانه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول اللہ ﷺ! إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت:

فأوحى ثم رفع عنه وأن العرق فى يده
ما وضعه فقال: إنه قد اذن لكن أن تخرجن
لحاجتكن۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ پردہ کے احکام نازل ہو جانے کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضاء حاجت کے لئے گھر سے باہر نکلیں، چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جسم تمہیں اور عام خواتین کے مقابلے میں دراز قد تھیں، اس لئے جو لوگ آپ کو پہچانتے تھے ان سے آپ مخفی نہیں رہ سکتی تھیں، چنانچہ جب آپ باہر نکلیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! اللہ کی قسم، تم ہم پر مخفی نہیں رہ سکتیں، لہذا سوچ لو تم کیسے نکلو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر واپس لوٹیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں داخل ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں گھر سے نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور وہ ہڈی اب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہاتھ میں تھی اور آپ ﷺ نے اس کو ابھی تک نہیں رکھا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب عورتوں کو حاجت کے لئے گھروں - باہر نکلنے کی اجازت دیدی گئی ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة انسان)

اس حدیث کے یہ الفاظ کہ:

قد اُذِنَ لَكُنْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ -

اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ خواتین کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ”حاجت“ کے ساتھ محدود ہے، حاجت کے علاوہ خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں۔

(۴) - عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: صلاة

المرأة فی بیتها أفضل من صلا تہا فی

حجرتہا و صلا تہا فی منحدعہا افضل من

صلا تہا فی بیتہا -

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورت کا اپنے گھر کی اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور اندرون گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

(أخرجه أبو داؤد وأخرجه الحاكم في المستدرک عن أم سلمة كمالی كنز العمال ۸: ۲۵۹، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كمالی الترغیب

(۵) - عن أم حميد امرأة أبي حميد
 الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه
 وسلم فقالت: يا رسول الله ﷺ! إني أحب
 الصلاة معك، قال: علمت أنك تحبين
 الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من
 صلواتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك
 خير من صلواتك في دارك وصلاتك في
 دارك خير لك من صلواتك في مسجد قومك
 وصلاتك في مسجد قومك خير لك من
 صلواتك في مسجدي قال: فأمرت فبنى لها
 مسجد في أقصى شئى من بيتها وأظلم
 فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل -

حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم! میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ (جماعت سے مسجد میں) نماز
 ادا کروں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جانتا ہوں کہ
 تمہیں میرے ساتھ (میرے پیچھے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے کی بڑی
 چاہت ہے، مگر تمہاری نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں پڑھو، اس نماز

سے افضل ہے جو تم گھر کے بیرونی دالان میں پڑھو، اور دالان میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلہ کی مسجد میں (جو کہ تمہارے گھر سے قریب ہو) نماز پڑھو، اور اپنے قبیلے کی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان سن کر حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر کے اندرونی اور تاریک حصے میں نماز کی جگہ بنوائی اور پھر موت تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہیں۔

(أخرجه أحمد في مسنده ۲: ۳۷۱، ونسبه ابن حجر في الإصابة من هذا الطريق إلى ابن أبي خيثمة، وهذا اسناد صحيح، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار ۳: ۶۱، عن ابن حجر أنه قال: اسناده حسن، وذكره المنذرى في الترغيب ۱: ۱۳۵. وقال: رواه أحمد و ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحهما)

(۶) - عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مرفوعاً: ليس للنساء نصيب في الخروج
الإمضطرة۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں الا یہ کہ وہ نکلنے پر مجبور ہوں۔

(أخرجه الطبرانی، كمالی كنز العمال ۸: ۲۶۳)

مندرجہ بالا احادیث بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ عورت کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ گھر کے ذریعہ پردہ کرے اور اپنی ذات کو اجنبی مردوں سے مخفی رکھے، ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔

حجاب کے دوسرے درجے کا ثبوت

لیکن بعض اوقات عورت کو اپنی حوائج طبعیہ کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس صورت میں اس کو اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ برقع سے یا چادر سے اپنے آپ کو اس طرح چھپالے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یہ حجاب کا دوسرا درجہ ہے۔

حجاب کا یہ دوسرا درجہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ -

(الاحزاب: ۵۹)

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکالیا کریں۔ ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر چادر لٹکانے سے مقصود یہ ہے کہ اس کا پورا بدن حتیٰ کہ اس کا چہرہ بھی چھپ جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق ”جلباب“ اس چادر کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک پورے جسم کو چھپائے۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی

کتاب ”المحلی“ میں فرماتے ہیں:

والجلباب فی لغة العرب التي خاطبها بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى
جميع الجسم لا بعضه -

وہ لغت عرب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، اس لغت میں ”جلباب“ اس چادر کو کہا جاتا ہے جو پورے بدن کو چھپالے، نہ کہ وہ چادر جو بعض جسم کو چھپالے۔

ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہ نے حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی سے اس آیت:

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ

کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے اندر اپنے کو لپیٹ لیا اور اپنا پورا سر پلکوں تک اس کے اندر چھپالیا اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، البتہ صرف اپنی بائیں آنکھ بائیں کنارے سے نکال لی۔

(روح المعانی ۲۲: ۸۹)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی عورتوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں کے ذریعہ اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھولیں۔

(تفسیر ابن جریر ۲۲: ۳۶)

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ بھی مروی ہے کہ عورت اپنے جلاباب کو اپنی پیشانی سے موڑ کر باندھ لے اور پھر اپنی ناک پر موڑ لے، اگرچہ دونوں آنکھیں ظاہر ہو جائیں، لیکن اپنے سینے کو اور چہرے کے اکثر حصے کو چھپالے۔ (ردالمعانی ۲۲: ۸۹)

بہر حال! یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ عورت جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو اس کے لئے شرعاً یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے کا ستر کر کے نکلے۔ اسی طرح قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت بھی اسی بات پر دلالت کر رہی ہے:

وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ
 نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ -
 (سورۃ النور: ۶۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں ”وضع ثياب“ سے جسم کے تمام کپڑے اتارنا مراد نہیں ہے بلکہ وضع ثياب سے مراد ”وضع جلاباب اور وضع رداء“ یعنی وہ اوپری اور ظاہری کپڑے اتارنا مراد ہے جس کے اتارنے کے نتیجے میں کشف عورت نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں آنے والے لفظ ”ثياب“ کی تفسیر ”جلباب اور رداء“ سے کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت

ابوالشعثاء، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حسن، حضرت قتادہ، امام زہری اور امام
اوزاعی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ ثیاب کی یہی تفسیر کی ہے۔ لہذا یہ
آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ”وضع جلباب“ کا حکم جو ”کشف
الوجہ“ کو مستلزم ہے، صرف ان بوڑھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن کو
آئندہ نکاح کی امید نہیں ہے، لیکن جہاں تک جوان عورتوں کا تعلق ہے تو ان
کے لئے اجانب کے سامنے جلباب اتارنا اور اپنا چہرہ کھولنا جائز نہیں۔

حضرات صحابیاتؓ اور پردہ

احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن
بھی جب کسی ضرورت سے باہر نکلتی تھیں تو جلباب اور رداء سے مستور ہو کر نکلتی
تھیں اور اجانب کے سامنے اپنے چہرے نہیں کھولتی تھیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل
احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں:

- ۱۔ عن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ قال:
جاءت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم -
یقال لها ام خلاد - وہی منتقبة تسأل عن
ابنها و هو مقتول، فقال لها بعض أصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم: جئت تسألین
عن ابنک وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرأ
ابنی فلن أرأ حیائی، فقال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم: له اجر شهیدین، قالت:
ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتلہ أهل
الكتاب۔

(ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فضل قتال الروم)

حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک خاتون
جن کو اُمّ خلد کہا جاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس
طرح حاضر ہوئیں کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا اور آکر اپنے مقتول بیٹے
کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگیں۔ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے کسی صحابی نے ان خاتون سے کہا کہ
تم اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو، اس کے باوجود تم نے
اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ ان خاتون نے جواب دیا کہ اگر میرے
بیٹے پر مصیبت آئی ہے تو میری حیا پر تو مصیبت نہیں آئی۔ اس کے بعد حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو شہیدوں کا اجر ملے گا، ان خاتون
نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایسا کیوں ہے؟ جواب میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لئے کہ اس کو اہل کتاب نے
قتل کیا ہے۔

۲۔ عن أم عطية رضي الله عنها ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج
الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحیض

فی العیدین فاما الحیض فیعزلن المصلی
 ویشهدن دعوة المسلمین، قالت احدا هن
 یا رسول اللہ! ان لم یکن لها جلباب؟ قال:
 فلتعرها اختها من جلبابها۔ ہذا الحدیث
 اخرجہ عدہ من أصحاب الصحاح۔

(ترمذی: باب خروج النساء فی العیدین۔ رقم ۵۳۹)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم عیدین کے موقع پر کنواری اور دوشیزہ اور پردہ دار اور حیض والی
 عورتوں کو نکالتے تھے مگر حیض والی خواتین عیدگاہ سے الگ رہتی تھیں، البتہ
 مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوتی تھیں، ایک خاتون نے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر کسی کے پاس
 جلباب نہ ہو تو (وہ کس طرح عیدگاہ میں حاضر ہو؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ
 اس کی بہن اپنے جلباب سے اس کو ڈھانپ لے۔

۳۔ عن حفصة بنت سيرين و لفظه "فقالت

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی

احدانا بأس اذا لم یکن لها جلباب ان

لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتهامن جلبابها"

(بخاری فی العیدین، رقم: ۹۸۰)

حضرت حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو تو کیا اس پر گناہ ہے اگر وہ (عید گاہ کی طرف) نہ نکلے، آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنا جلباب اس کو پہنا دے۔

۴۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "يُذْنِبِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَابِ
بِيْبِهِنَّ" خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلِيَّ
رَعَوْسَهْنَ الْغُرَبَانَ مِنَ السَّكِينَةِ وَ عَلِيَهُنَّ
أَكْسِيَةَ سُودٍ يَلْبَسْنَهَا - (روح المعاني ۲۲: ۸۹)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت:

يُذْنِبِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلَابِ بِيْبِهِنَّ

نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھیں۔

۵۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: رحم

اللہ تعالیٰ نساء الأنصار لَمَّا نَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا

النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ الْآيَةَ، شَقَقْنَ

مروطنہن فاعتجرن بها فصلین خلف رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما علی رؤسهن
 الغربان - (روح المعانی ۲۲: ۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ
 تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جب قرآن کریم کی یہ آیت:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمُ

نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑیں اور ان کو اوڑھ لیا بنالیں،
 پس وہ عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتیں
 گویا کہ ان کے سروں پر کٹے بیٹھے ہیں۔

۶۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: کان
 الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم محرّمات فاذا حاذوا
 بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی
 وجهها فاذا جا وزونا كشفناه۔

(ابوداؤد، فی الحج، باب المحرمة تغطی وجهها، رقم: ۱۸۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے، اس وقت ہمارے
 پاس سے لوگوں کی سواریاں گزر رہی تھیں، جب وہ سواریاں ہمارے قریب

آئیں تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے چہرے پر لٹکالیتی تھیں اور جب وہ سواریاں آگے گزر جاتیں تو ہم اپنا چہرہ کھول لیا کرتی تھیں۔

مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نزول حجاب کے بعد چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کا التزام کرتی تھیں اور گھر سے نکلتے وقت اس چادر کو اپنے چہرے پر بھی لٹکالیا کرتی تھیں۔ اور آخری حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے کہ پردے کا یہ اہتمام دوسرے حالات میں تو مستقل طور پر تھا ہی، حتیٰ کہ حالت احرام میں جب کہ چہرے پر کپڑا کا چھونا شرعاً ممنوع ہے، اس وقت بھی چہرے کے پردے کا اہتمام فرمایا۔

حجاب کے تیسرے درجے کا ثبوت

حجاب کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کا پورا بدن سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہو، البتہ ضرورت کے وقت اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں کھول دے بشرطیکہ فتنے سے مامون ہو۔ حجاب کے اس تیسرے درجے پر قرآن کریم کی سورۃ نور کی یہ آیت دلالت کر رہی ہے:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا۔
(سورۃ النور: ۳۱)

یعنی آپ (ﷺ) مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں کھلی چیز ہے۔ ”مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ان حضرات نے ”مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ کی تفسیر ”وجہ اور کفین“ سے کی ہے، حضرت عطاء، حضرت عکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابوالشعواء، حضرت امام شحاک اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ کی تفسیر چادر اور جلباب سے کی ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ عورت کے لئے ضرورت کے وقت چہرہ اور ہتیلیاں کھولنا جائز ہے۔ اور مندرجہ ذیل احادیث بھی اس پر دلالت کر رہی ہیں:

۱۔ عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا أن
 أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى
 الله عليه وسلم و عليها ثياب زقاق فأعرض
 عنها وقال: يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت
 المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و
 هذا وأشار إلى وجهه و كفيه۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے اوپر باریک کپڑے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ مناسب نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے اور آپ ﷺ نے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا:

۲۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قصة رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المزدلفة أنه صلی اللہ علیہ وسلم أردف الفضل بن عباس وأتی الجمرة فرماها ثم أتى المنحروفیه ”واستفتته جارية شابّة من خثعم فقالت: ان أبی شیخ کبیر قد أدرکتہ فریضة اللہ فی الحج أفیجزئ أن أحج عنہ؟ قال: حجی عن أبیک، قال: ولوی عنق الفضل فقال العباس: یا رسول اللہ! لم لویت عنق ابن عمک؟ قال: رأیت شابًا وشابّة فلم أمن الشیطان علیهما“

(ترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء ان عرفة کلها موقف)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدلفہ سے واپس لوٹنے کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھالیا اور پھر آپ ﷺ حجرۃ کے پاس آئے اور رمی فرمائی اور پھر آپ منحر میں تشریف لے گئے (جس جگہ اونٹوں کو نحر کیا جاتا تھا) اور اسی روایت میں یہ ہے کہ اس دوران قبیلہ خشعم کی ایک نوجوان عورت آپ کے پاس آئی اور آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ حج عائد ہو چکا ہے، اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو یہ حج ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کی طرف سے حج ادا کر لو۔ اس گفتگو کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چہرہ پھیر دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ کیوں پھیر دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نوجوان مرد و عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔

وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 "كُنْتُ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَعْرَابِي مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسَنَاءُ فَجَعَلَ
 الْأَعْرَابِي يُعْرِضُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم رجاء أن يتزوجهما قال: فجعلت
التفت إليها وجعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه“ ذكره
الهيثمي في كتاب النكاح من مجمع
الزوائد ۴: ۲۷۷، وقال: رجاله رجال
الصحيح، فأما أن يكون هذا في واقعة أخرى
وأما أن يكون أحد الروايات وهم في بيان أن
البنات كانت للأعرابي - وأن حديث
الترمذي صريح في أن أبا هالم يكن معها،
والله أعلم -

ابو یعلیٰ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت نقل کی
ہے، اس میں حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور ایک اعرابی تھا جس کے ساتھ اس کی
خوبصورت بیٹی تھی، وہ اعرابی اپنی بیٹی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس
امید پر پیش کر رہا تھا کہ آپ اس سے نکاح فرمائیں، حضرت فضل فرماتے
ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر
پکڑ کر اس کی طرف سے پھیر دیا۔

اس واقعہ کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب

الاستیذان میں حدیث نمبر ۶۲۲۸ میں اس طرح ذکر فرمائی ہے کہ:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ولفظه
 "أردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 الفضل بن عباس یوم النحر خلفہ علی عجز
 راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس یفتیہم
 وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطفق
 الفضل ینظر إلیها وأعجبه حسنہا فالتفت
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم والفضل ینظر
 إلیها فأخلف بیدہ فأخذ بذقن الفضل فعدل

وجہہ عن النظر إلیها"۔ الحدیث

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہما کو اپنی سواری کے پچھلے حصے پر بٹھالیا اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 خوبصورت تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوالات کے جواب
 دینے کے لئے رک گئے، اتنے میں قبیلہ خثعم کی ایک خوبصورت عورت آ کر
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی، حضرت فضل رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اس عورت کے حسن

نے ان کو تعجب میں ڈال دیا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت فضلؓ اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر ان کی تھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ اس عورت کی طرف سے پھر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے سیاق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اسی لئے انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت خوبصورت تھی اور اس کے حسن نے حضرت فضلؓ کو متعجب کر دیا اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اس عورت کی طرف سے پھیر دیا لیکن اس عورت کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، اس لئے کہ وہ عورت حالت احرام میں تھی۔ اور شاید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہ دیا ہو کہ شدید ازدحام میں چہرہ کا پردہ کرنے کی صورت میں گر جانے یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ بہر حال! یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت کا سارا بدن چھپا ہوا ہو تو ضرورت کے وقت اس کے لئے چہرہ کھولنا جائز ہے۔

۳۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ: أن
امراة جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقالت: یا رسول اللہ! جئت لأهب
لك نفسی فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم
طأ رأسه۔

(اخرجه البخاری فی باب النظر الی المرأة قبل التزوج، رقم: ۵۱۲۵)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!
میں اس لئے آئی ہوں تاکہ اپنے آپ کو آپ ﷺ کے لئے بہہ کر دوں،
پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا اور اوپر سے نیچے
تک غور سے دیکھا اور نظر نیچی کر لی اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔

اس واقعہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت اس خاتون کا چہرہ کھلا ہوا
تھا۔ اسی واقعہ سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں اس بات پر
استدلال کیا ہے کہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں۔ (دیکھئے مبسوط، ۱۰: ۱۵۲)

جہاں تک عورت کے چہرے اور ہتھیلی کی طرف دیکھنے کے سلسلے میں
فقہاء کے مذاہب کا تعلق ہے تو تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر لذت
حاصل کرنے کی نیت سے دیکھنا ہو یا دیکھنے کے نتیجے میں ایسے فتنہ کا اندیشہ ہو
جو مفضی الی الخلوۃ ہو تو اس صورت میں دیکھنا جائز نہیں بلکہ ایسی صورت میں
عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے کے حرام ہونے میں کسی کا
اختلاف نہیں۔ لیکن اگر مرد فتنہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو اور دیکھنے سے
لذت حاصل کرنا بھی مقصود نہ ہو تو اس کے جواز میں اختلاف ہے، حنفیہ اور
مالکیہ کے نزدیک ایسی صورت میں چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف نظر کرنا جائز

ہے اور اکثر شوافع اور بعض حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے لیکن شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مختار مذہب مطلقاً عدم جواز کا ہے اگرچہ شہوت اور فتنہ کا اندیشہ نہ

ہو۔

عورت کی طرف دیکھنے کے مسئلے میں احناف کا مذہب

امام شمس الامتہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

يباح النظر الى موضع الزينة الظاهرة منهن
دون الباطنة لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا - وقال علي وابن عباس
رضى الله تعالى عنهم: ما ظهر منها: الكحل
والخاتم وقالت عائشة رضی اللہ عنہا:
احدى عينها وقال ابن مسعود رضی اللہ
عنه: خفها وملاءتها - واستدل في ذلك
بقوله صلى الله عليه وسلم: النساء حبايل
الشیطان، بهن یصید الرجال ولان
حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها
في وجهها فخوف الفتنة في النظر الى
وجهها اكثر منه الى سائر الأعضاء - وبنحو

هذا تستدل عائشة رضی اللہ عنہا ولكنها
 تقول: هي لا تجد بدأً من أن تمشي في
 الطريق فلا بد من ان تفتح عينها لتبصر
 الطريق فيجوز لها أن تكشف احدی عينیها
 لهذه الضرورة والثابت بالضرورة لا يعدو
 موضع الضرورة۔ (المبسوط للسرخسی، ۱۰: ۱۵۲)

یعنی عورتوں کی زینت ظاہرہ کے مواضع کی طرف دیکھنا مباح ہے، زینت
 باطنہ کی طرف دیکھنا مباح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: خواتین اپنی
 زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلی چیز ہے۔ حضرت علی اور حضرت
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ: ”مَاطْهَرٌ مِنْهَا“ سے
 مراد سرمہ اور انگوٹھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
 ”مَاطْهَرٌ مِنْهَا“ سے مراد ایک آنکھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”مَاطْهَرٌ مِنْهَا“ سے مراد موزے اور چادر ہے اور
 حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال فرمایا ہے کہ آپ
 ﷺ نے فرمایا کہ ”عورتیں شیطان کے لئے جال ہیں، اس سے وہ مردوں کا
 شکار کرتا ہے“۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کی حرمت فتنہ کے خوف کی وجہ سے
 ہے اور عورت کے اکثر محاسن اس کے چہرے ہی میں ہوتے ہیں، اس لئے
 دوسرے اعضاء کی طرف دیکھنے کے مقابلے میں چہرے کی طرف دیکھنے میں
 فتنہ کا خوف زیادہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی دلائل سے

استدلال فرماتی ہیں، البتہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لئے راستہ میں چلنے سے مفر نہیں ہے اور راستہ دیکھنے کے لئے آنکھ کھولنا ضروری ہے، لہذا اس ضرورت کے لئے عورت کو ایک آنکھ کھولنا جائز ہے، البتہ جو چیز ضرورۃً ثابت ہو وہ موقع ضرورت سے متجاوز نہیں ہوتی۔

اس کے بعد امام شمس الائمۃ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولکنا نأخذ بقول علی وابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما فقد جاءت الأخبار فی
الرخصة بالنظر الی وجهها وكفها، من ذلك
ماروی أن امرأة عرضت نفسها علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی وجهها
فلم یر فیہا رغبة ولما قال عمر رضی اللہ
عنه فی خطبته: ألا لا تغالوا فی أصدقة
النساء، فقالت امرأة سفعاء الخدین: انت
تقوله برأیک ام سمعته من رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم؟ فانا نجد فی کتاب اللہ
تعالیٰ بخلاف ماتقول فذكر الراوی
أنها كانت سفعاء الخدین، وفی هذا بیان
أنها كانت مسفرة عن وجهها - ورأی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرأة غیر
 مخضوب فقال: أكف رجل هذا؟
 ولَمَّا نولت فاطمة رضی اللہ عنہا أحد
 ولديها بلالاً أو أنساً رضی اللہ عنہم قال
 أنس: رأيت كفها كأنها فلقة قمر۔ فدل على
 أنه لا بأس بالنظر الى الوجه والكف فالوجه
 موضع الكحل والكف موضع الخاتم۔

لیکن ہم حضرت غلی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول کو
 اختیار کریں گے، اس لئے کہ چہرے اور ہتھیلی کی طرف دیکھنے کے جواز میں
 احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے آپ
 کو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے ان
 خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا، پس آپ ﷺ نے ان خاتون میں کوئی
 رغبت محسوس نہیں کی۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ خبردار! عورتوں کے مہر کو زیادہ نہ بڑھاؤ،
 تو ایک خاتون جس کے رخسار سرخی مائل سیاہ تھے، کھڑی ہوئی اور کہا کہ یہ
 بات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی
 ہے؟ اس لئے کہ ہم قرآن کریم میں اس کے خلاف پاتے ہیں جو آپ کہہ
 رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی کا یہ بیان کرنا کہ وہ خاتون سرخی مائل سیاہ

رخسار والی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔

ایک مرتبہ سور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ہاتھ کو دیکھا کہ اس پر مہندی لگی ہوئی نہیں تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے؟

ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حضرت بلال یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہتھیلی دیکھی گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھی۔ لہذا یہ روایات اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ چہرے یا ہتھیلی کی طرف نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں، پس چہرہ سرمہ لگانے کی جگہ ہے اور ہتھیلی انگوٹھی کی جگہ ہے۔

امام سرحسیؒ مزید فرماتے ہیں:

ثم لاشك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر
خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها
وكفها - وروى الحسن بن زياد عن أبي
حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً وهكذا
ذكر الطحاوي، لأنها كما تبلى بابتداء
وجهها في المعاملة مع الرجال و بابتداء
كفها في الأخذ والإعطاء، تبلى بابتداء

قدميها اذا مشت حافية او متعلة وربما لا
تجد الخف في كل وقت - وذكر في جامع
البرامكة عن ابي يوسف انه يباح النظر الى
ذراعيها ايضا، لأنها في الخبز و غسل
التياب تبلى بابداء ذراعيها ايضا - قيل:
وكذلك يباح النظر الى ثناياها ايضا لأن
ذلك يبدو منها عند التحدث مع الرجال -

اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے کپڑے کی طرف دیکھنا مباح ہے اور اس
میں فتنہ کے خوف کے اندیشے کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا، لہذا اسی طرح عورت
کے چہرے اور ہتھیلی کی طرف دیکھنا بھی مباح ہے۔ حضرت حسن بن زیاد امام
ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کے قدم کی طرف دیکھنا
بھی مباح ہے اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے، اس
لئے کہ جس طرح مردوں کے ساتھ معاملات کے وقت عورت کو اپنا چہرہ
کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور جس طرح لیتے وقت اور دیتے وقت
اپنی ہتھیلی کے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح نیگے پاؤں یا جوتے
کے ساتھ چلنے کے دوران قدم کھولنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ
اس کو ہر وقت موزے تو میسر نہیں آسکتے۔

جامع البرامکة میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ

عورت کے بازو کی طرف نظر کرنا بھی مباح ہے، اس لئے روٹی پکاتے وقت اور کپڑے دھوتے وقت اس کو اپنے بازو دکھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت کے سامنے کے دانتوں کی طرف دیکھنا بھی مباح ہے، اس لئے کہ مردوں سے بات کرتے وقت دانت ظاہر ہو جاتے ہیں۔

آگے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وهذا كله اذالم يكن النظر عن شهوة، فان
 كان يعلم أنه ان نظر اشتهى، لم يحل له
 النظر الى شئ منها، لقوله صلى الله عليه
 وسلم: من نظر الى محاسن اجنبية عن
 شهوة صبّ في عينيه الآنك يوم القيامة وقال
 لعلى رضى الله عنه: لا تتبع النظرة بعد
 النظرة فإن الأولى لك و الأخرى عليك؛
 يعنى بالأخرى ان يقصدها عن شهوة
 وكذلك ان كان أكبر رأيه أنه إن نظر
 اشتهى، لأن أكبر الرأى فيما لا يوقف على
 حقيقته كاليقين -

(المبسوط للسرخسى ج ۱۰، ص ۱۵۲)

یعنی یہ مندرجہ بالا ساری تفصیل اس وقت ہے جب وہ شہوت کی نظر نہ ہو،

لیکن اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے عورت کی طرف نظر کی تو اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے گی تو اس صورت میں اس مرد کے لئے عورت کے ان اعضاء میں سے کسی عضو کی طرف بھی دیکھنا حلال نہیں، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی اجنبی عورت کے محاسن کی طرف شہوت سے دیکھا تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو، اس لئے کہ پہلی نگاہ تمہارے لئے حلال ہے اور دوسری نگاہ تم پر وبال ہے، یعنی اگر دوسری نگاہ شہوت کے قصد سے ڈالی گئی ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب مرد کی غالب رائے یہ ہو کہ اگر اس نے عورت کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کے دل میں اس کی طرف میلان ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکتے ہوں، اس کے اندر غالب رائے یقین کا درجہ رکھتی ہے۔

مالکیہ کا مذہب

جہاں تک مالکیہ کے مذہب کا تعلق ہے تو ان کا مذہب وہ ہے جو امام خرفی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مختصر خلیل“ کے حاشیہ پر لکھا ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنھا

حتى دلالیھا و قصتها ماعدا الوجه والكفین

ظاہرہما و باطنہما. فجوز النظر لہما
 بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة۔
 وقال مالك: تأكل المرأة مع غير ذی محرم
 ومع غلامها وقد تتأكل مع زوجها وغيره
 ممن یواكله۔ ابن القطان: وفيه اباحة ابداء
 المرأة وجهها وینديها للأجنبي، اذ لا يتصور
 الأكل الا هكذا۔

(حاشية الخرشى على مختصر خليل، ۱: ۳۳۷)

یعنی آزاد عورت کا پورا بدن اجنبی مرد کے لئے ستر ہے، یہاں تک کہ عورت کا
 ناز و انداز اور اس کی بات چیت بھی، سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے
 ظاہری اور باطنی حصوں کے، لہذا ان دونوں اعضاء کی طرف لذت کے بغیر
 اور فتنہ کے خوف کے بغیر بلا عذر بھی نظر کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ خاتون جوان
 ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے غیر ذی محرم اور اپنے
 غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، اس لئے کہ بعض اوقات اس کو اپنے شوہر
 کے ساتھ کھانا پڑتا ہے جبکہ شوہر کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کھانا کھا رہے
 ہوں۔ ابن قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے عورت کے
 لئے اجنبی کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کھولنے کی اجازت معلوم
 ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں اعضاء کو کھولے بغیر کھانا کھانے کا تصور نہیں ہے۔

”شرح المواق“ میں یہی عبارت مع اضافہ موجود ہے، دیکھئے: شرح
المواق مع الخطاب ۱: ۴۹۹۔

امام علیش ”منح الجلیل“ میں فرماتے ہیں:

فیحوز لها کشفهما (أی الوجه والکفین)
للأجنسی وله نظرهما ان لم تخش الفتنة، فإن
خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق: مشهور
المذهب وجوب سترهما۔

(منح الجلیل: ۱: ۱۳۳)

پس عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنا جائز ہے اور
مرد کے لئے ان دونوں کی طرف نظر کرنا جائز ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو،
البتہ اگر فتنہ کا خوف ہو تو اس کے بارے میں ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مشہور مذہب یہ ہے کہ عورت کے لئے ان کو
چھپانا واجب ہے۔

(مواہب الجلیل للخطاب میں بھی اسی طرح موجود ہے، دیکھئے ج ۱، ص ۴۹۹، ۵۰۰)

شافعیہ کا مذہب

شافعیہ کا مذہب وہ ہے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح
میں ”منہاج“ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

ویحرم نظر فحل بالغ الی عورة حرّة کبيرة

أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة
وكذا عند الامن على الصحيح -

یعنی بالغ مرد کے لئے آزاد اجنبی بڑی عورت کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اسی طرح فتنہ کے اندیشہ کے وقت اس کے چہرے اور ہتیلیوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے اور صحیح قول کے مطابق فتنہ سے امن کے وقت بھی یہی حکم ہے۔
مندرجہ بالا عبارت کے تحت علامہ خطیب شربنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے

ہیں:

قوله: علي الصحيح، ووجهه الامام باتفاق
المسلمين على منع النساء من الخروج
سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة و
محرّك للشهوة والثاني (أى القول
الثاني) لا يحرم - ونسبه الامام للجدهور
والشيخان للأكثرين، وقال فى المهمات:
انه الصواب لكون الأكثرين عليه - وقال
البلقيني: الترجيح بقوة المدرك و الفتوى
على ما فى المنهاج ومانقله الامام من
الاتفاق على منع النساء أى منع الولاية لهن
معارض بما حكاه القاضى عياض عن

العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها
 في طريقها، وإنما ذلك سنة وعلى الرجال
 غضّ البصر عنهنّ للآية - وحكاية المصنف
 (أى النووى) فى شرح مسلم واقره عليه -
 وقال بعض المتأخرين: إنه لاتعارض فى
 ذلك بل منعهن من ذلك لا لأنّ الستر واجب
 عليهن فى ذاته بل لأن فيه مصلحة عامّة
 وفى تركه اخلال بالمروءة ٥١ وظاهر
 كلام الشيخين ان الستر واجب لذاته
 فلايتأتى هذاالجمع وكلام القاضى ضعيف -

(راجع معنى المحتاج، ج ٣، ص ١٢٨، ١٢٩، ومثله فى نهاية المحتاج، ج ٦، ص

١٨٥، ١٨٢)

یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کا اس پر
 اتفاق ہے کہ عورتوں کو چہرہ کھول کر گھر سے باہر نکلنے سے روکا جائے اور اس
 لئے بھی کہ ”نظر“ فتنہ کی جگہ اور شہوت کے لئے محرک ہے۔ دوسرا قول یہ
 ہے کہ مرد کا عورت کی طرف دیکھنا حرام نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس دوسرے قول کو جمہور کی طرف منسوب کیا ہے اور شیخین نے اس کو
 اکثر شوافع کی طرف منسوب کیا ہے۔ ”مہمات“ میں ہے کہ یہ شیخین کی بات
 زیادہ درست ہے، اس لئے کہ اکثر شوافع اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام بلقینی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الترجیح بقوۃ المدرك، اور فتویٰ ”منہاج“ میں بیان کئے ہوئے قول پر ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مسلم میں جو مسلمانوں کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ عورتوں کے سر پرستوں کو چاہئے کہ وہ ان کو چہرہ کھول کر گھر سے باہر نکلنے سے روکیں، ان کا یہ قول قابضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے معارض ہے جس میں انہوں نے علماء کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ عورتوں کے لئے راستے میں چہرہ ڈھانپنا واجب نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا سنت ہے، البتہ آیت قرآنی کی وجہ سے مردوں پر ان عورتوں سے غض بصر واجب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اسی قول کو نقل فرمایا ہے اور انہی کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ بعض متأخرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ جس قول میں عورتوں کو چہرہ کھول کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، یہ اس لئے منع نہیں کیا گیا کہ بالذات ان کو چہرے کا چھپانا واجب ہے بلکہ مصلحت عامہ کی وجہ سے ان کو منع کیا گیا ہے اور اس کے ترک سے مروءۃ میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور شیخین کے ظاہری کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چہرے کا چھپانا واجب لذاتہ ہے، لہذا دونوں قول جمع نہیں ہو سکتے اور قابضی عیاض کا کلام ضعیف ہے۔

حنابلہ کا مذہب،

علامہ ابن قدامۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغنی“ کی کتاب النکاح میں

حنابلہ کا یہ مذہب ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

فأما نظر الرجل الى الأجنبية من غير سبب
فانه محرم الى جميعها في ظاهر كلام أحمد
وقال القاضي: يحرم عليه النظر الى ما عدا
الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر
إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة و نظر لغير
شهوة وهذا مذهب الشافعي ولنا قول
الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَّرَائِهِ حِجَابٍ - واما حديث اسماء ان
صحّ فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب
فنحمله عليه - (المعنى ج ۶، ص ۵۵۸، ۵۵۹)

جہاں تک مرد کے لئے اجنبی عورت کی طرف بلاوجہ دیکھنے کا تعلق ہے تو امام
احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری کلام کے مطابق پورے جسم کی طرف دیکھنا حرام
ہے۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور کفین کے علاوہ دوسرے
اعضاء کی طرف دیکھنا حرام ہے، اس لئے کہ وہ ستر کا حصہ ہیں، البتہ اگر فتنة
سے مامون ہو اور بلا شہوت کے دیکھے تو اس صورت میں کراہت کے ساتھ
دیکھنا جائز ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ہماری دلیل اللہ
تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم ان خواتین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے
سے مانگو۔ جہاں تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کا تعلق ہے،

اگر وہ صحیح بھی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہو، لہذا ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے۔

بہر حال! مذاہب اربعہ کی طرف نظر کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مذاہب اس پر تو متفق ہیں کہ لذت حاصل کرنے کی نیت سے یا فتنہ کے اندیشہ کے وقت عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور شافیہ اور حنابلہ کے مذاہب میں راجح قول یہ ہے کہ فتنہ سے امن کے وقت بھی چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے، البتہ حنفیہ اور مالکیہ نے فتنہ سے امن اور لذت کا قصد نہ ہونے کی شرط کے ساتھ عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اس شرط کا پایا جانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر ہمارے اس دور میں جبکہ فساد عام ہو چکا ہے، اکثر احوال میں یہ شرط نہیں پائی جاتی، اس لئے متاخرین حنفیہ نے مطلقاً عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ درمختار کی باب الکراہیۃ میں ہے کہ:

فان خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى
وجہها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة والآن
فحرام، وهذا في زمانهم، أما في زماننا فممنوع
من الشابة، قهستاني وغيره، إلا النظر لحاجة
كقاص وشاهد يحكم ويشهد عليها الخ۔

یعنی اگر شہوت کا خوف ہو یا شہوت کا شک ہو تو اس صورت میں عورت کے

چہرے کی طرف دیکھنا ممنوع ہے، لہذا عدم شہوت کی قید کے ساتھ عورت کی طرف نظر کرنا حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ اور یہ حکم ان فقہاء کے زمانے کا ہے، اور جہاں تک ہمارے اس دور کا تعلق ہے، اس میں تو نوجوان عورت کی طرف نظر کرنا ممنوع کہا گیا ہے، فہستانی وغیرہ، البتہ ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے، جیسے قاضی کا فیصلہ سناتے وقت دیکھنا یا شاہد کا گواہی دیتے وقت دیکھنا الخ

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”شروط الصلاة“ میں فرماتے ہیں:
 وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين
 رجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة۔

یعنی نوجوان عورت کو مردوں کے درمیان چہرہ کھولنے سے منع کیا جائے گا، یہ حکم اس لئے نہیں کہ وہ چہرہ ستر میں داخل ہے بلکہ فتنہ کے خوف کی وجہ سے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”باب التعزیر“ میں فرماتے ہیں:
 يعزر المولى عبده والزوج زوجته على
 تركها الزينة (الى قوله) أو كشفت وجهها
 لغير محرم۔

یعنی مولیٰ اپنے غلام پر اور شوہر اپنی بیوی پر زینت چھوڑنے پر یا اپنا چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنے پر تعزیری سزا جاری کرے گا۔

امام ابوبکر جُصاص رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں اس

آیت یُدْنِیْنِ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیْھِنَّ کے تحت فرماتے ہیں:

فی هذه الآیة دلالة علی أن المرأة الشابة

مامورة بستر وجهها عن الأجنبیین واطهار

الستر والخفاف عند الخروج، لتلاطمع

اهل الريب فیھن۔ (احکام القرآن: ج ۳، ص ۳۵۸)

یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جوان عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ گھر سے نکلنے کے وقت اجنبی مردوں سے اپنا چہرہ چھپائے اور پردہ اور موزے ظاہر کرے تاکہ اہل ریب ان کے اندر لالچ نہ کریں۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں:

وبهذا الذی قلنا تجتمع النصوص

والروایات المتضادة بظاہرها، فإنك قد

عرفت مما سر دنا لك من الآیات والروایات

ان بعضها یجوز كشف الوجه والكفین، إما

علی الجزم و الیقین كحدیث الفضل بن

عباس عند البخاری و حدیث اسماء بنت

أبی بكر فی السنن و حدیث الواهبة

نفسها عند البخاری وأمثالها وبعضها یجوز

على احتمال لاختلاف وقع بين الصحابة
رضى الله عنهم فى تفسير قوله تعالى: **إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا، عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ**۔

(احکام القرآن، ج ۳، ص ۳۶۹)

یعنی جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ تمام روایات اور نصوص جن میں بظاہر آپس میں تضاد نظر آتا ہے متفق ہو جاتی ہیں، اس لئے کہ ہم نے پیچھے جو آیات اور روایات بیان کی ہیں، ان کو دیکھنے سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ان میں سے بعض روایات جزم اور یقین کے ساتھ چہرہ اور ہتیلی کھولنے کو جائز قرار دے رہی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اور سنن میں حضرت اسماء بنت ابی بکر والی حدیث اور بخاری شریف میں اس خاتون کا واقعہ جو اپنے نفس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہہ کرنے کے لئے آئی تھی وغیرہ۔ اور بعض روایات احتمال کے ساتھ چہرہ اور ہتیلی کھولنے کو جائز قرار دے رہی ہیں، کیونکہ آیت کریمہ **”إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا“** کی تفسیر میں حضرات صحابہ کرامؓ کا اختلاف ہو گیا ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید فرماتے ہیں:

وبعضها يحرم كشف الوجه والكفين

والنظر اليهما من الأجنب كقوله تعالى:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وقوله تعالى:

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقوله
 تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ، على
 تفسير الجمهور من الصحابة، وقوله
 تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ عَلَى تَفْسِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهذه نصوص الكتاب و
 روايات السنة ظاهرها التعارض والتضاد،
 وفيما ذكرناك بعون الله تعالى: غنية عن
 هذا الاشكال، فانك اذا حققت ما قلنا
 عرفت ان هذه النصوص كلها متوافقة
 المعنى متناسقة الاحكام، وكلها محكمة
 غير منسوخة غير أن الحكم مشروط
 بشروط فحيث وجدت الشروط أجزى
 وحيث لا فلا

اور بعض نصوص چہرہ اور ہتھیلی کھولنے اور اجنبیوں کا ان کی طرف نظر کرنے کو
 حرام قرار دے رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"
 اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد "فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ " اور جمهور
 صحابہ کی بیان کردہ تفسیر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلَابِيبِهِنَّ " اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر

کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....“ لہذا کتاب اللہ کی ابنہ نصوص اور احادیث نبوی میں بظاہر تعارض اور تضاد نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے اوپر جو تفصیل بیان کی ہے، اس کے نتیجے میں الحمد للہ تعارض کا یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے اور تمام نصوص اور احادیث اپنے اپنے معنی میں ثابت رہتی ہیں، ان میں سے کسی کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ صرف اتنی بات ہے کہ یہ حکم چند شرائط سے مشروط ہو جائے گا، اب جہاں وہ شرطیں پائی جائیں گی وہاں چہرہ وغیرہ کھولنے کی اجازت ہوگی اور جہاں وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی وہاں اجازت نہیں ہوگی۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين
تفسیری ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ
عنہم، وقال شيخنا أشرف المشايخ نور اللہ
مرقده في جزء أفرده في هذا البحث
السَّمي "بالقاء السكينة في تحقيق ابداء
الزينة" أنه لا اختلاف بين تفسيرهما عند
التعمق و إمعان النظر، فان لفظه "مَا ظَهَرَ"
وان فسر بالوجه والكفين لكن المذكور في
الا ستثناء هو صيغة الظهور لا الاظهار

وہویشیر اشارہ واضحہ إلى أن الغرض
استثناء مالا استطاع ستره بل بحيث يظهر
عند الكسب والعمل من دون قصد الاظهار
بأن يلحقهن ضرر بستره عند الكسب
والعمل، فكان المستثنى على تفسير ابن
عباس رضى الله عنه أيضاً هو ظهور الوجه
والكفين عند الاضطرار اليه، وهو لا ينافي
قول ابن مسعود رضى الله عنه - قلت:
ويؤيد هذا المعنى ما قال ابن كثير فى تفسير
قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا: أى لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب
الا مالا يمكن اخفاءه -

یعنی اوپر جو ہم نے تفصیل بیان کی، یہ اس بنیاد پر ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن
عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دونوں تفسیروں کے
درمیان اختلاف کی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ”اللقاء
السکینة فى تحقیق ابداء الزینة“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ تحریر
فرمایا ہے، اس رسالہ میں فرماتے ہیں کہ ”اگر تعقیق اور گہری نظر ڈالی جائے تو


یہ نظر آئے گا کہ دونوں تفسیروں کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں ہے، اس لئے کہ لفظ ”مَآظْهَرٌ“ کی تفسیر اگرچہ چہرہ اور کفین سے کی گئی ہے لیکن استثناء میں ”ظہور“ کا (لازمی) صیغہ ہے ”اظہار“ کا (متعدی) صیغہ نہیں ہے، اور یہ لازمی صیغہ اس طرف صاف اشارہ کر رہا ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا استطاعت سے خارج ہے اور بلا قصد کسب اور عمل کے وقت ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کو چھپانے میں ضرر ہوتا ہے، ان کا استثناء کرنا مقصود ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق بھی مجبوری کی حالت میں چہرہ اور کفین کا کھولنا مستثنیٰ ہے اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے منافی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس معنی کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جو آیت قرآن ”وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ یہ کہ خواتین اجانب کے سامنے اپنی زینت کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہ کریں، الآیہ کہ ایسی زینت جس کا اخفاء ممکن نہ ہو۔

خلاصہ

بہر حال! پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو قرآن کریم کے ذریعہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے تو اس کو حکم یہ ہے کہ برقع یا چادر سے اپنے چہرہ کو ڈھانپ لے اور یہ کہ اپنا چہرہ بھی نہ کھولے، البتہ دو

صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں: ایک یہ کہ چہرہ کھولنے کی ایسی ضرورت ہو کہ چہرہ ڈھانپنے میں نقصان ہو سکتا ہو، جیسے بھیڑ میں چلنے کے دوران، یا کسی دوسری ضرورت کے وقت مثلاً گواہی وغیرہ دیتے وقت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسب اور عمل کے وقت بلا قصد اس کا چہرہ کھل جاتا ہو۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ واللہ سبحانہ أعلم۔

(ماخوذ از تکملة فتح الملهم ج ۳ ص ۲۶۱)



اسلام میں تصویر کا حکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

الله أكبر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اسلام میں تصاویر کا حکم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ
وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَعَلٰی كُلِّ مَنْ
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ - اَمَّا بَعْدُ!

آج کے دور میں ”تصاویر“ کا رواج ہر جگہ عام ہو چکا ہے۔ (لہذا ہم
یہاں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کریں گے) چنانچہ سب سے پہلے ہم ان
احادیث کو ذکر کریں گے جن میں تصاویر کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس کے
بعد اس کے بارے میں فقہاء کے مذاہب ذکر کریں گے۔

احادیث میں تصاویر کی ممانعت

جن احادیث میں تصاویر کی ممانعت وارد ہوئی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوْرَ یَعَذَّبُوْنَ یَوْمَ

القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم-

(صحیح بخاری، باب عذاب المصورین و مسلم ایضاً)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ تصاویر بناتے ہیں قیامت کے روز ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔

۲- عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ان من أشد الناس عذاباً يوم القيامة

المصورون - (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔

۳- قال أبو زرعة: دخلت مع أبي هريرة في

دار مروان فرأى فيها التماوير فقال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن

ذهب يخلق خلقاً كخلقى فليخلقوا ذرة

ولیخلقوا حبة أو لیخلقوا شعيرة -

(صحیح بخاری باب نقض الصور، صحیح مسلم ایضاً)

حضرت ابو زرعة فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، انہوں نے اس گھر میں تصاویر دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرتا ہے پس اس کو توچا پیٹے کہ وہ ذرہ پیدا کر کے دکھائے اور دانہ پیدا کر کے دکھائے اور جو پیدا کر کے دکھائے۔

۴۔ عن ابی طلحة رضی اللہ عنہ یقول:

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یقول: لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ کلب ولا

صورة۔

(صحیح مسلم، کتاب اللباس و الزینة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان)

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔

۵۔ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال: قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل

الملائكة بیتاً فیہ تماثیل أو تصاویر۔ (صحیح مسلم ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے یا تصاویر ہوں۔

۶۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 قال: سمعت محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم
 يقول: من صور صورة فی الدنیا کلف یوم
 القيامة ان ینفخ الروح و لیس ینافخ۔

(صحیح بخاری، باب من صور صورة الخ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کوئی تصویر بنائے گا تو قیامت کے روز اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس کے اندر روح ڈالے اور وہ اس کے اندر روح نہیں ڈال سکے گا۔

۷۔ قال سعید بن أبی الحسن: كنت عند
 ابن عباس اذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس!
 انی رجل انما معیشتی من صنعة یدی وانی
 اصنع هذه التصاویر، فقال ابن عباس: لا
 أحدثک الا ما سمعت من رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم، سمعته یقول: من صور
 صورة فانّ اللہ معذبه حتی ینفخ فیها الروح

ولیس بنافخ فیہا ابدأ - فربا الرجل ربوة
شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك ان
أبيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر، كل
شئى ليس فیہ روح -

(صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب بیع التصویر)

حضرت سعید بن ابی الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا، اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ابن عباس! میری معیشت کا مدار میرے ہاتھ کی صنعت پر ہے اور میں یہ تصاویر بناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے وہ بات بیان کرتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے والے ہیں یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح ڈال دے اور وہ شخص کبھی بھی اس میں روح نہیں ڈال سکے گا، یہ سن کر اس شخص نے ایک لمبی سانس لی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ارے بھائی، اگر تو بنانا ہی چاہتا ہے تو اس درخت کی تصویر بنا اور ہر اس چیز کی تصویر بنا جس میں روح نہ ہو۔

۸ - عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال: ان

النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ثمن

الدم و ثمن الكلب وكسب البغى ولعن
 آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة
 والمصوّر۔

(صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب من لعن المصور)

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے اور کتے کی قیمت لینے
 سے اور بدکاری کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے سو دکھانے والے اور
 سو دکھلانے والے اور ہاتھ میں گودنے والی اور گدوانے والی اور تصویر بنانے
 والے پر لعنت فرمائی ہے۔

۹۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قدم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر
 وقد سترت سهوة لی بقرام فیہ تماثیل
 فلما راه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 هتکة وقال: أشد الناس عذاباً یوم القیامة
 الذین یضاهنون بخلق اللہ، قالت: فقطعناه
 فجعلناه وسادة او سادتين۔

(صحیح بخاری، باب ما وطنی من التصاویر)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر

سے تشریف لائے، میں نے روشندان پر ایک باریک پردہ ڈال دیا تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عمل پیدائش کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے وہ پردہ کاٹ دیا اور اس سے ایک یاد دہیکے بنائے۔

۱۰۔ عن عبد اللہ بن عمر قال: وعد جبریل
النبي صلی اللہ علیہ وسلم فراث علیہ حتی
اشتد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقیہ
فشکا الیہ ما وجد فقال: إنا لا ندخل بیتاً فیہ
صورة ولا کلب۔

(صحیح بخاری، باب لا تدخل الملائکة بیتاً فیہ صورة)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا، پس حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات شاق گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، وہاں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، آپ نے انتظار کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کی شکایت کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم

ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

۱۱۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصورة فی البیت ونہی أن یصنع ذلك۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر رکھنے سے منع فرمایا ہے اور تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے۔

۱۲۔ عن علی رضی اللہ عنہ أنه قال لأبی الہیاج الأسدی: ألا أبعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تدع صورة الا طمستہا ولا قبراً مشرفاً إلا سويتہ۔

(مسلم: کتاب الجنائز، باب الامر بتسویة القبور۔ ترمذی: کتاب الجنائز حدیث نمبر ۱۰۴۹۔ و ابوداؤد: کتاب الجنائز، حدیث نمبر ۳۲۱۸)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت ابوالہیاج الاسدی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کام کی ترغیب نہ دوں جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ترغیب دی، وہ یہ کہ کسی تصویر کو نہ چھوڑو مگر یہ کہ تم اس کو مٹا دو اور کوئی بلند قبر نہ چھوڑو مگر یہ کہ تم اس کو برابر کر دو۔

۱۳۔ عن عبد اللہ بن نجی الحضرمی عن

أبيه عن عليّ رضي الله عنهم في حديث
طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه ذكر عن جبريل عليه السلام أنه قال: انها
ثلاث لن يلج ملك ما داموا فيها أبداً واحداً
منها كلب او جنابة او صورة روح-

أخرجه احمد في مسنده كما في فتح
البارى ۱: ۲۷۹، وأخرجه أيضاً النسائي
و ابن ماجه مختصراً وسنده جيد كما في
”الفتح الرباني“

حضرت عبداللہ بن نجی الحضرمی اپنے والد سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه ایک طویل حدیث میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے
فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ کسی جگہ پر ہوں، فرشتے اس جگہ
داخل نہیں ہوتے، ان میں سے ایک کتا، دوسرے ناپاکی کی حالت والا،
تیسرے جاندار کی تصویر۔

۱۴- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما
اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
بعض نساء ه كنيسة يقال لها مارية وكانت

أم سلمة و أم حبيبة أتتا ارض الحبشة
فذكرتا من حسنهما وتصاوير فيها فرفع رأسه
فقال: أولئك اذامات فيهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك
الصور، أولئك شرار خلق الله -

(اخرجه البخارى و مسلم والنسائى)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بعض خواتین نے نصاریٰ کے کنیسہ کا
تذکرہ کیا جس کو ”ماریہ“ کہا جاتا تھا، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حبشہ سے آئی تھیں، اس لئے ان دونوں نے اس کنیسہ
کے حسن اور اس کے اندر جو تصاویر ہیں ان کا ذکر کیا، حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں
کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں اور پھر
اس مسجد میں تصاویر بنا دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ
ہیں۔

مندرجہ بالا چودہ احادیث مرفوع ہیں، اور سب کی سب علی الاطلاق
اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ تصاویر ممنوع ہیں اور اس بارے میں کوئی فرق نہیں
ہے کہ وہ تصاویر جسم والی ہوں یا وہ تصاویر کپڑوں پر یا کاغذ وغیرہ پر بنائی گئی
ہوں۔

تصاویر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

کے اقوال اور ان کا تعامل

اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے بہت سے ایسے آثار وارد ہوئے ہیں جو اس بات دلائی کرتے ہیں کہ یہ حضرات بھی تصویر کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ ان آثار میں سے چند آثار مندرجہ ذیل ہیں:

۱- عن عمر رضی اللہ عنہ أنه قال

لنصاری: انا لا ندخل کنائسکم من أجل

التمائیل التي فیها الصور-

(ذکرہ البخاری تعلیقاً فی کتاب الصلاة، باب الصلاة فی البیعة)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے نصاریٰ سے فرمایا کہ ہم تمہارے عبادت خانوں میں ان مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے جو کہ حقیقت میں تصاویر ہیں۔

عبدالرزاق نے اس اثر کو اسلم مولیٰ عمر کے طریق سے اس طرح نقل

کیا ہے کہ:

لَمَّا قَدِمَ عَمْرُ الشَّامِ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ

النَّصَارَى طَعَامًا وَكَانَ مِنْ عِظْمَانِهِمْ وَقَالَ:

أحب أن تجيئني وتكرمني فقال له عمر: انا
لاندخل كنا نسكم من أجل الصور التي فيها
يعني التماثيل -

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تشریف لائے تو نصاریٰ کے ایک
شخص نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا، وہ شخص نصاریٰ کے بڑے لوگوں میں
سے تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ
آپ میرے یہاں تشریف لائیں اور مجھے عزت بخشیں، حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے عبادت خانوں میں ان تصاویر یعنی
مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے جو اس میں موجود ہوتی ہیں۔

۲- عن علی رضی اللہ عنہ أنه بعث أبا
الہیاج الاسدی وقال له: ألا أبعثک علی
ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان لا تدع صورة إلا طمستہا الخ -

(یہ اثر اور اس کا ترجمہ اوپر نمبر ۱۲ میں گزر چکا ہے)

۳- عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أنه رأى
صورة فی البیت فرجع -

(بخاری، کتاب النکاح، باب هل یرجع اذا رأى منکراً)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گھر

میں تصویر دیکھی تو واپس چلے گئے (اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے)

۴ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله

عنه أن رجلاً صنع له طعاماً فدعاها فقال: أفي

البيت صورة؟ قال: نعم! فأبى أن يدخل حتى

كسر الصورة ثم دخل -

(سنن بیہقی ۷: ۲۶۸، کتاب النکاح، باب المدعویری صوراً)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے لئے کھانا تیار کیا اور پھر ان کو بلایا، انہوں نے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی تصویر ہے؟ داعی نے کہا کہ ہاں! آپ نے اس کے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اس شخص نے وہ تصویر توڑ دی پھر آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔

۵- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى

فرساً من رفاع في يد جارية فقال: ألا ترى

هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إنما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة -

(مسند احمد ۲: ۲۸۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بچی کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو نہیں دیکھتی ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی چیز وہی شخص

بناتا ہے جس کا قیامت کے روز کوئی حصہ نہیں ہے۔ (یعنی ثواب کا)

۶۔ عن شعبة مولى ابن عباس رضى الله

عنهما ان المسور ابن مخرمة دخل على

عبدالله بن عباس يعوده، فرأى عليه ثوب

استبرق، فقال: يا ابن عباس! ما هذا الثوب؟

قال ابن عباس: وما هو؟ قال: الاستبرق قال:

انما كره ذلك لمن يتكبر فيه قال: ما هذه

التصاوير فى الكانون؟ فقال: لاجرم، ألم

تركيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال:

انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رءوس هذه

التصاوير التى فى الكانون فقطعها۔

(سنن بیہقی، ۴: ۲۷۰، مسند احمد ۱: ۳۵۳)

شعبہ مولیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت

مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لئے حضرت عبد اللہ بن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے اوپر موٹا ریشمی

کپڑا ہے، انہوں نے فرمایا اے ابن عباس! یہ کپڑا کیا ہے؟ حضرت ابن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو ریشمی کپڑا

ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لئے

پہننا مکروہ ہے جو اس کو پہن کر تکبر کریں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ انگیٹھی میں جو

تصاویر ہیں، وہ کیسی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو آگ نے کس طرح جلا دیا ہے۔ جب حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ کیڑا میرے اوپر سے ہٹا دو اور انگیٹھی میں جو تصاویر ہیں ان کے سروں کو کاٹ دو۔ پس ان کو کاٹ دیا گیا۔

۷۔ عن قتادة أن كعباً رضى الله عنه قال: و

أما من آذى الله فالذين يعملون الصور

فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم-

(مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص ۴۰۰، حدیث نمبر ۱۹۴۹۲)

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یہ وہ لوگ ہیں جو تصاویر بناتے ہیں، ان سے کہا جائے گا (قیامت کے دن) کہ جو تم نے بنایا ہے ان کو زندہ کرو۔

۸۔ عن قتادة قال: يكره من التماثيل ما فيه

الروح فأما الشجر فلا بأس به-

(مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ ص ۴۰۰، حدیث نمبر ۱۹۴۹۳)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ تماثيل مکروہ ہیں جو ذی روح کی ہوں، اگر درخت کی تماثيل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

۹۔ أخرج ابن سعد في طبقاته أن سعيد بن

المسيب كان لا يأذن لابنته في اللعب

بينات العاج -

(طبقات ابن سعد: ج ۵، ص ۱۳۳)

ابن سعد نے طبقات میں فرمایا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیٹی کو ہاتھی دانت کی گڑیا سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

فقہاء کے مذاہب

مندرجہ بالا احادیث اور آثار کی وجہ سے جمہور فقہاء تصاویر بنانے اور تصاویر کو گھروں میں لگانے کی حرمت کے قائل ہیں، چاہے وہ تصاویر مجسم اور سایہ دار ہوں یا غیر مجسم ہوں اور سایہ دار نہ ہوں۔

چنانچہ حدیث نمبر ۴۳ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے تحت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ”شرح مسلم“ میں فرماتے ہیں:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث، وسواء صنعه بما يمتن أو بغيره فصنعه حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى..... وأما

اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان
 معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة
 ونحو ذلك مما لا يعد ممتهاً فهو حرام، وان
 كان في بساط يداس ومخدة و وسادة و
 نحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولا فرق
 في هذا كله بين ماله ظل و مالا ظل له۔ هذا
 تلخيص مذهبنا في المسئلة۔ و بمعناه قال
 جماهير العلماء من الصحابة و التابعين و من
 بعدهم وهو مذهب الثوري و مالك و ابي
 حنيفة و غيرهم۔

ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ حیوان کی تصویر بنانا انتہائی
 شدید حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لئے کہ اس عمل پر شدید وعید احادیث
 میں مذکور ہے، چاہے اس کو کسی حقیر چیز پر بنائے یا باعزت چیز پر بنائے، ہر
 حال میں اس کی صنعت حرام ہے، اس لئے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 عمل پیدائش میں مشابہت اختیار کرنا ہے۔ جہاں تک اس چیز کے رکھنے کا
 تعلق ہے جس پر کسی حیوان کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اگر وہ تصویر کسی ایسی چیز
 پر بنی ہوئی ہے جو کسی دیوار پر لٹکی ہوئی ہے، یا وہ کپڑا ہے جو جسم پر پہنا ہوا ہے،
 یا عمامہ پر ہے، یا اس طرح کی کسی ایسی چیز پر ہے جس کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تو
 ایسی چیز رکھنا حرام ہے، اور اگر وہ تصویر ایسے بچھونے پر بنی ہوئی ہے جو روندنا

جاتا ہے، یا کسی چھوٹے یا بڑے ایسے تکیوں پر بنی ہوئی ہے جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے تو ان کو رکھنا حرام نہیں۔ البتہ اس لحاظ سے حلت اور حرمت میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تصویر سایہ دار ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ میں مندرجہ بالا تفصیل ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے، جمہور صحابہ کرامؓ اور جمہور تابعینؓ اور ان کے بعد کے جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک، امام ثوری اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ وغیرہم کا بھی یہی مسلک ہے۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عمدة القاری“ میں اسی طرح کا قول نقل فرمایا ہے، دیکھئے (ج ۱۰، ص ۳۰۹) اسی سے احناف اور شوافع کا مسلک بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور حنابلہ کا مذہب بھی یہی ہے، چنانچہ علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یحرم تصویر مافیہ روح ولا یحرم تصویر
الشجر و نحوہ، و التمثال ممالا یشابہ مافیہ
روح، علی الصحیح من المذہب..... و یحرم
تعلیق مافیہ صورة حیوان و ستر الجدار بہ
و تصویرہ علی الصحیح من المذہب۔

(الانصاف للمرداوی، ج ۱، ص ۴۷۴)

صحیح مذہب کے مطابق ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے اور درخت وغیرہ کی تصویر بنانا اور ایسا مجسمہ بنانا جو کسی ذی روح کے مشابہ نہ ہو، حرام نہیں۔ اور صحیح مذہب کے مطابق ایسی چیز لٹکانا جس پر حیوان کی تصویر بنی ہوئی ہو اور اس چیز

سے دیوار کا پردہ کرنا اور کسی حیوان کی تصویر بنانا حرام ہے۔

علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغنی“ میں ص ۷، ج ۷، کتاب الولیمہ میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔

چونکہ تصویر کے مسئلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف روایات ہیں، اس وجہ سے علماء مالکیہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف پیش آیا ہے، البتہ مذہب مالکیہ کی تمام روایات واقوال کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مجسم تصویر جو سایہ دار ہو حرام ہے، البتہ وہ تصویر جو سایہ دار نہ ہو جیسے کاغذ یا کپڑے پر بنائی ہوئی تصویر، اس کی حرمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

واختلف فی تصویر مالا ظل له فکروه ابن
شہاب فی اى شئ صور من حائط او ثوب
او غیرهما و اجاز ابن القاسم تصویرہ فی
الثياب لقوله فی الحدیث الآتی ”إلا رقماً

فی ثوب“ (شرح المسلم للآئبی: ج ۵، ص ۳۹۳)

یعنی جو تصویر سایہ دار نہ ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے، علامہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں چاہے وہ دیوار پر ہو یا کپڑے پر ہو یا کسی اور چیز پر ہو، جبکہ علامہ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ صرف اس تصویر کو جائز قرار دیتے ہیں جو کسی کپڑے پر بنی ہوئی ہو، اس لئے کہ حدیث شریف کے الفاظ ”إلا رقماً فی ثوب“ میں ایسی تصویر کی اجازت دی گئی ہے۔

اسی طرح علامہ مواق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عرفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ تصویر کی حرمت کا حکم صرف ان تصاویر کے ساتھ ہے جو جسم دار ہوں۔ (دیکھیے: التاج والإکلیل: ج ۴، ص ۴)

علامہ درردیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والحاصل أن تصاویر الحيوانات تحرم
اجماعاً ان كانت كاملة لها ظل مما يطول
استمراره، بخلاف ناقص عضولا يعيش به
لو كان حيواناً، وبخلاف مالا ظل له كمنقش
فی ورق أو جدار، وفيما لا يطول استمراره
(كالمالو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف،
والصحيح حرمة۔

(حاشية الصاوى على الشرح الصغير، ۲: ۵۰۱)

یعنی خلاصہ یہ کہ اگر حیوانات کی تصاویر کامل ہوں، سایہ دار ہوں اور دیر پا ہوں تو ایسی تصاویر بالا جماع حرام ہیں۔ بخلاف اس تصویر کے جو ایسے ناقص عضو والی ہو کہ اگر وہ حقیقی حیوان ہوتا تو اس عضو کے ناقص ہونے کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا تھا اور بخلاف ایسی تصویر کے جو سایہ دار نہ ہو جیسے کاغذ یا دیوار پر کسی حیوان کا نقش، البتہ وہ تصویر جو دیر پا نہ ہو (جیسے تربوز کے چھلکے سے کسی حیوان کی صورت بنا دی) اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ایسی تصویر حرام ہے۔

مذہب مالکیہ کی کتابوں کی طرف مراجعت کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اکثر فقہاء مالکیہ تصویر کی کراہت کے قائل ہیں اگرچہ وہ سایہ دار نہ ہو، الا یہ کہ وہ تصویر ذلت والی جگہ پر بنائی گئی ہو۔ چنانچہ علامہ خرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال فی التوضیح: التمثال اذا كان لغير
حيوان كالشجر جائز وان كان لحيوان
فماله ظل ويقيم فهو حرام باجماع، وكذا
يحرم وان لم يقم كالعجين خلافاً لأصبع
وما لا ظل له ان كان غير ممتهن فهو مكروه
وان كان ممتهن فتركه أولى۔

(خرشی علی مختصر الخلیل، ۳: ۳۰۳)

علامہ خرشی رحمۃ اللہ علیہ ”توضیح“ میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر حیوان کا مجسمہ ہو مثلاً درخت کا تو وہ جائز ہے، اور اگر حیوان کا مجسمہ ہو تو اگر وہ مجسمہ سایہ دار ہو اور پائیدار ہو تو وہ بالاجماع حرام ہے، اور اگر پائیدار نہ ہو جیسے گوندا ہوا آٹا تو بھی حرام ہے خلافاً لأصبع۔ اور اگر وہ ایسا مجسمہ ہے جو سایہ دار نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ کسی حقیر اور ذلیل جگہ پر نہ ہو تو مکروہ ہے اور اگر کسی ذلیل اور حقیر جگہ پر ہو تو بھی اس کا ترک اولیٰ ہے۔ علامہ در دیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح الکبیر“ میں بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ (دیکھئے: دسوقی، ج ۲، ص

۳۳۸، الزرقانی علی مختصر خلیل ج ۲، ص ۵۳)

خلاصہ یہ ہے کہ جسم دار تصویر بنانا ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، اگر جسم دار نہ ہو تو بھی آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک قول حرام ہونے کا ہے البتہ اکثر علماء مالکیہ کے نزدیک مختار مذہب یہ ہے کہ ایسی تصویر مکروہ ہے، لیکن بعض علماء مالکیہ ایسی تصویر کے جواز کے قائل ہیں۔

جو حضرات فقہاء غیر مجسم تصویر کے جواز کے قائل ہیں، وہ حضرت بسر بن سعید کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں:

أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد
الجهني حدثه ومع بسر عبید الله الخولاني،
أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه
صورة، قال بسر: فمرض زيد بن خالد
فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاویر
فقلت لعبید الله الخولاني، ألم يحدثنا في
التصاویر؟ قال انه قال: إلا رقماً في ثوب الم
تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك۔

(صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة)

حضرت بسر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد جہنیؒ بیان کرتے ہیں اور حضرت بسر کے ساتھ عبید اللہ خولانیؒ بھی تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔“ حضرت بسر بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد الجعفی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لئے گئے، ہم جس کمرے میں تھے اس میں ایک پردہ تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں، میں نے حضرت عبید اللہ خولانی سے کہا کہ کیا انہوں نے تصاویر کے بارے میں حدیث بیان نہیں کی تھی؟ حضرت عبید اللہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا ”الارقماء فی ثوب“ کیا تم نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سنا، انہوں نے یہ الفاظ بیان کئے تھے۔“

ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ:

عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ أنه دخل
 علی ابي طلحة الأ نصاری يعودہ، قال:
 فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا
 أبو طلحة انساناً ينزع نمطاً تحته فقال له
 سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه التماوير وقد
 قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد
 علمت، قال سهل: أولم يقل: ”الا ما كان
 رقماً في ثوب“؟ فقال: بلى ولكنه أطيّب
 لنفسی (ترمذی، کتاب اللباس، حدیث نمبر ۱۷۵۰)

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طلحہ

انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لئے گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں حضرت سہل بن حنیف کو موجود پایا، فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا تاکہ وہ ان کے نیچے سے چادر نکال لے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تصاویر ہیں اور تصاویر کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہیں، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ”الاماکان رقما فی ثوب“؟ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ضرور فرمایا ہے لیکن اس کا نکال دینا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔

غیر مجتہد تصویر کے جواز کے قائلین مندرجہ بالا دو احادیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تصویر جو کسی کپڑے پر بنی ہوئی ہو، وہ حرمت سے مستثنیٰ ہے، لہذا ایسی تصویر جائز ہے۔

جمہور فقہاء ان احادیث کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ”الرقم فی الثوب“ سے مراد وہ تصویر ہے جو کسی درخت یا کسی غیر ذی روح کی تصویر ہو، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ:

دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل، فلما
 رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة! أشد
 الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين
 يضاھون بخلق الله۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے اپنے طاقے کو ایک ایسے
 پردے سے ڈھانپا ہوا تھا جس پر تصاویر تھیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم نے وہ پردہ دیکھا تو آپ نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور
 فرمایا: اے عائشہ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ سخت
 عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے عمل سے مشابہت
 اختیار کرتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ تصویر جو کسی کپڑے پر بنی ہوئی ہو،
 جائز ہوتی تو اس پردے پر بنی ہوئی تصویر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہ
 فرماتے جبکہ وہ پردہ کپڑے کا تھا۔ (جہاں تک اس قصہ میں روایات کے
 اختلاف کا تعلق ہے، اس کی تحقیق انشاء اللہ اس باب کی اسی حدیث کے تحت
 آجائے گی اور وہاں پر ہم یہ بیان کریں گے کہ تمام روایات میں ایک ہی واقعہ
 مذکور ہے اور اس حدیث کو متعدد واقعات پر محمول کرنا بہت بعید ہے)

ہمارے زمانے کے بعض متجددین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تصویر کی
 حرمت ابتداء اسلام میں تھی، اس لئے کہ ابتداء سے ہی زمانہ جاہلیت اور

پرستی کے زمانے سے قریب تھا اور لوگوں کے دلوں میں توحید کا عقیدہ راسخ نہیں ہوا تھا، لہذا جب توحید کا عقیدہ ان کے اندر راسخ ہو گیا تو تصویر کی حرمت اٹھالی گئی۔ مجددین کے اس دعویٰ پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں، اگر تصویر کی حرمت کا حکم منسوخ ہو جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اس کا نسخ بیان فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تصاویر سے منع نہ فرماتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فقہاء صحابہ ایسے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرماتے تھے جن میں تصاویر ہوتیں، یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پیش آیا۔ یہ اس بات کی دلیل قطعی ہے کہ تصویر کی حرمت کا حکم اب بھی باقی ہے اور اس حکم کو کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ اور یہ حکم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی حرمت کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے عمل سے مشابہت اختیار کرنا ہے، یہ علت ایسی ہے جو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ ایک زمانے میں پائی جائے اور دوسرے زمانے میں نہ پائی جائے۔

علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ ”شرح العمدة“ میں فرماتے ہیں:

ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك
محمول على الكراهة وأن التشديد كان في
ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة
الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام

وتمهدت قواعده فلايساويه في هذا التشديد
 و هذا القول عندنا باطل قطعاً لأنه قد
 ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة
 بعذاب المصورين، وانهم يقال لهم: احيوا
 ما خلقتهم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا
 القائل - وقد صرح بذلك في قوله عليه
 السلام: المشبهون بخلق الله، وهذه علة
 عامة مستقلة مناسبة ولا تخص زماناً دون
 زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص
 المتظاهرة المتضاربة بمعنى خيالي -

(شرح العمدة، ج ۱، ص ۱۷۲، كتاب الجنائز، حديث: ۱۱)

جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے انتہائی دور کی بات کہی ہے کہ تصویر
 کی حرمت کراہت پر محمول ہے اور یہ تصویر کی حرمت کی شدت اسی زمانے میں
 تھی (جب اسلام نیا نیا تھا) کیونکہ لوگوں کا وہ زمانہ بتوں کی عبادت سے
 قریب کا زمانہ تھا، اب اس زمانہ میں چونکہ اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام کے
 قواعد آسان ہو چکے ہیں، اس لئے اس حکم میں اب وہ شدت باقی نہیں رہی۔
 ہمارے نزدیک یہ قول قطعی طور پر باطل ہے، اس لئے کہ احادیث اور اخبار
 میں تصویر بنانے والوں کو آخرت میں عذاب دیے جانے کی وعید وارد ہوئی
 ہے اور قیامت کے روز تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا

ہے اس کو زندہ کرو۔ لہذا یہ علت ان متجددین کے قول کے بالکل مخالف ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اس کی صراحت موجود ہے، وہ یہ کہ ”المشبهون بخلق اللہ“ یعنی یہ تصاویر بنانے والے اللہ تعالیٰ کے بنانے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ علت عام، مستقل اور مناسب ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لہذا ایک خیالی معنی کی وجہ سے ایسی نصوص میں تصرف کرنا جائز نہیں جو ظاہر ہیں اور جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں۔

علامہ احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ بالا عبارت کے بعد فرماتے ہیں:

هذا مقاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من

٦٤٠ سنة، يرد على قوم تلاعبوا بهذه

النصوص في عصره أو قبل عصره، ثم يأتي

هؤلاء المفتون المضلون واتباعهم

المقلدون الجاهلون أو الملحدون الهدامون،

يعيدونها جزعة ويلعبون بنصوص الاحاديث

كما لعب اولئكم من قبل، ثم كان من اثر

هذه الفتاوى الجاهلة ان ملئت بلادنا

بمظاهر الوثنية كاملة فنصبت التماثيل

و ملئت بها البلاد تكريماً لذكرى من نسبت
اليه و تعظيماً..... وكان من أثر هذه الفتاوى
الجاهلة ان صنعت الدولة وهى تزعم انها
دولة إسلامية فى أمة إسلامية ماسمته
مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون
الجميلة صنعت معهداً للفجور الكامل
الواضح! ويكفى للدلالة على ذلك ان
يدخله الشبان الماجنون من الذكور
والاناث إباحيين مختلطين، لا يردعهم دين
ولا عفاف ولا غيرة، يصورون فيه الفواجر
من الغانيات اللاتى لا يستحيين ان يقفن
عرايا ويجلسن عرايا ويضطجعن عرايا.....
ثم يقولون لنا: هذا فن، لعنهم الله ولعن من
رضى هذا منهم اوسكت عليه -

(تعليقات احمد شاكر على مسند احمد، ج ۱۲، ص ۱۵۱، حديث نمبر ۷۱۶۶)

بعض مجددین تصویر کے جواز پر قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال
کرتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں نازل ہوئی ہے کہ:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ

وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ -

(سورة سبا: آیت ۱۳)

وہ جفّات ان کے لئے وہ چیزیں بناتے جو ان کو
(بنوانا) منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیاں اور
لگن (ایسے بڑے) جیسے حوض اور (بڑی بڑی) دگیں
جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔

مجددین اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات
پر دلالت کر رہی ہے کہ جفّات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مورتیاں
بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نعمتوں کے بیان کے سیاق میں ذکر
فرمایا ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ مورتیاں بنانا حرام نہیں۔

لیکن یہ استدلال دو وجہ سے درست نہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ لغت میں
”تمثال“ ہر اس تصویر کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری شے کی صورت کے مطابق
بنائی گئی ہو، جیسا کہ ”لسان العرب“ وغیرہ میں اسکی صراحت موجود ہے۔ لہذا
یہ ممکن ہے کہ وہ ”تمثال“ جو جفّات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بناتے
تھے وہ غیر ذی روح کی تصاویر ہوں، چنانچہ علامہ زحشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی
تفسیر ”کشاف“ میں مندرجہ بالا آیت کے تحت فرماتے ہیں:

ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور
الأشجار وغيرها لأن التمثال كل ما صور
على مثل صورة غيره من حيوان أو غير

حیوان -

یعنی یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات جو تماثل بناتے تھے وہ غیر حیوان مثلاً درخت وغیرہ کی تماثل ہوں، کیونکہ ”تمثال“ ہر اس تصویر کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مثل بنائی جائے، چاہے وہ حیوان کی صورت ہو یا غیر حیوان کی ہو۔

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ توراہ میں بھی ذی روح کی تصویر کی حرمت وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ محرف شدہ توراہ جو آج ہمارے پاس ہے، اس میں بھی یہ حکم موجود ہے، چنانچہ ”سفر الخروج“ میں ہے۔

لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ماممافی

السماء من فوق ومافی الارض من تحت

ومافی الماء من تحت الارض -

(سفر الخروج، ۲:۲۰)

یعنی آپ کے لئے کوئی تراشیدہ صورت نہ بنائی جائے، نہ کسی ایسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں ہے یا جو نیچے زمین میں ہے یا جو زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ”سفر التثنیہ“ میں یہ عبارت درج ہے:-

لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسکم تمثالاً

منحوتا صورة مثال ما شبه ذکر أو انشی، شبه

بهیمة ما مآ علی الأرض، شبه طیر ما ذی

جناح ممّا يطير في السماء شبه ديب ماعلى

الأرض، شبه سمك ما ممّا في الماء من

تحت الارض - (سفر التنبية، ۳: ۱۸۹)

یعنی تاکہ تم نہ فساد نہ کرو (اس طرح کہ) تم اپنے لئے ایسی تراشیدہ تصویر بناؤ جو کسی مذکر یا مؤنث کے مشابہ ہو، یا کسی ایسے چوپائے کے مشابہ ہو جو زمین پر ہے، یا کسی ایسے پرندے کے مشابہ ہو جو پروں والا ہو جس سے وہ آسمان پر اڑتا ہو، یا زمین پر ریگنے والے کے مشابہ ہو، یا زمین کے نیچے پانی میں تیرنے والی مچھلی کے مشابہ ہو۔

یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام توراہ کی پیروی کرتے تھے، لہذا یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ ایسی تصاویر بنانے کا حکم دیں جس کو توراہ نے حرام قرار دیا ہو۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ وہ تصاویر جو جنّات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بنایا کرتے تھے، وہ غیر ذی روح کی تصاویر ہوتی تھیں جیسے درخت اور پھول اور کائنات کے قدرتی مناظر وغیرہ کی تصاویر۔

اس آیت سے استدلال درست نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذی روح کی تصاویر بنانے کی اجازت دے رکھی تھی، تو بھی اصول یہ ہے کہ سابقہ شرائع کے ذریعہ ایسی چیز کے بارے میں استدلال کرنا صحیح نہیں کہ ہماری شریعت میں اس کے معارض حکم موجود ہو۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں انتہائی تاکید سے ممانعت فرمائی ہے اور حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا ہمارے لئے حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا۔

(سورة المائدة: آیت ۴۸)

تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔

عکسی تصاویر (فوٹو) کا حکم

جہاں تک عکسی تصاویر کا تعلق ہے جس کو ”فوٹو گرافی تصویر“ کہا جاتا ہے، کیا اس تصویر کا بھی وہی حکم ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا حکم ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء معاصرین کا اختلاف ہے، چنانچہ مفتی مصریح علامہ محمد بخیت رحمۃ اللہ علیہ نے ”الجواب الشافی فی اباحۃ التصوير الفوتوغرافی“ کے نام سے ایک رسالہ تالیف فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فوٹو گرافی تصویر درحقیقت جس ظل ہے جو اس صنعت کے ماہرین نے مخصوص طریقے سے اس ظل کو محفوظ کر لیا ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو شرعاً منہی عنہ ہے، کیونکہ منہی عنہ کسی ایسی تصویر کو بنانا اور ایجاد کرنا ہے جو اس سے پہلے موجود اور مصنوع نہیں تھی اور وہ تصویر ایسے جاندار کے مشابہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ بات اس تصویر میں موجود نہیں جو کیمرا کے ذریعہ کھینچی جائے۔

لیکن عرب ممالک کے بہت سے علماء اور ہندوستان کے تمام علماء یا ان کی بڑی تعداد نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عکسی تصویر اور ہاتھ سے نقش کی ہوئی تصویر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ عرب ممالک کے بعض معاصر علماء کی عبارات مندرجہ ذیل ہیں:

شیخ مصطفیٰ الحامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”النہضة الاصلاحية“ میں فرماتے ہیں:

وانی أحب أن تجزم الجزم كله ان التصوير
 بآلة التصوير (الفوتوغراف) كاللتصوير
 باليد تماماً فيحرم على المؤمن تسليطها
 للتصوير ويحرم عليه تمكين مسليطها
 لالتقاط صورته بها لأنه بهذا التمكين يعين
 على فعل محرم غليظ وليس من الصواب
 في شئ ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا
 هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة
 أن التصوير ما كان باليد والتصوير بهذه
 الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراماً. وهذا
 عندي أشبه بمن يرسل اسدا مفترسا فيقتل
 من يقتل او يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من

مرّبه اویضع سمّا فی طعام فیہلک کل من
 تناول من ذلك الطعام فاذا وجّه الیہ اتہام
 بالقتل قال: أنا لم أقتل، انماقتل السمّ
 والكهرباء والاسد.....

(النہضة الاصلاحیة، ص ۲۶۳ و ۲۶۵)

یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس پر پورا یقین رکھا جائے کہ کیمبرہ کے ذریعہ کھینچی گئی تصویر مکمل طور پر ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کی طرح ہے، لہذا ایک مومن پر تصویر کے لئے اس آلہ کو استعمال کرنا حرام ہے، ایسی طرح کسی دوسرے کو اپنی تصویر کھینچنے پر قدرت دینا کہ وہ شخص کیمبرہ کے ذریعہ آپ کی تصویر کھینچ لے، یہ بھی حرام ہے، اس لئے کہ اس قدرت دینے کے ذریعہ ایک انتہائی شدید حرام فعل پر اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور ہمارے موجودہ دور کے ایک عالم جو اس آلہ کے ذریعہ کھینچی ہوئی تصویر کو جائز قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تصویر وہ ہوتی ہے جو کہ ہاتھ سے بنائی جائے اور جو تصویر اس آلے کے ذریعہ بنائی جاتی ہے، اس میں ہاتھ کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا یہ تصویر حرام نہیں۔ ان عالم کی یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں، میرے نزدیک اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پھاڑنے والا شیر چھوڑ دے اور وہ شیر جا کر کسی شخص کو قتل کر دے یا کوئی شخص بجلی کا کرنٹ چھوڑ دے کہ جو بھی اس کے اوپر سے گزرے وہ کرنٹ اس کو ختم کر دے یا کوئی شخص کھانے میں زہر ملا دے کہ جو شخص بھی اس کو کھائے تو وہ ہلاک ہو جائے، اس

کے بعد جب اس شخص پر قتل کا الزام عائد ہو تو وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تو قتل نہیں کیا بلکہ زہر اور بجلی اور شیر نے قتل کیا ہے۔

شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”آداب الزفاف“ میں فرماتے ہیں۔

وقریب من هذا تفریق بعضهم بین الرسم بالید و بین التصوير الشمسیّ یزعم أنه لیس من عمل الانسان و لیس من عمله فیہ إلا إمساك الظلّ فقط کذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن یصور فی لحظة ما لا یستطیعه بدونها فی ساعات، فلیس من عمل الانسان عندهؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، و قبیل ذلك تركيب ما یسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحمیضه و غیر ذلك ممّالا اعرفه فهذا أيضاً لیس من عمل الانسان عند اولئك أيضاً..... وثمره التفریق عندهم أنه یجوز تعلیق صورة رجل مثلاً فی

البيت اذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي،
ولا يجوز ذلك اذا كانت مصورة باليد! أما انا
فلم أرله مثلاً إلا جمود بعض اهل الظاهر
قديماً مثل قول أحدهم في حديث ”نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول
في الماء الراكد“ قال: فالنهى عنه هو البول
في الماء مباشرة امالو بال في إناء ثم أراقه
في الماء فهذا ليس منها عنه -

(آداب الزفاف للألباني)

فرمایا کہ بعض لوگوں کا ہاتھوں سے بنی ہوئی تصویر اور عکسی تصویر کے درمیان
فرق کرنا اس کے قریب قریب ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ عکسی تصویر انسان کا
عمل نہیں ہے، اس میں انسان کا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ اس نے صرف
سایہ کو روک دیا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے ورنہ وہ سخت جدوجہد جو موجود نے اس
آلے کے بنانے پر صرف کی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو یہ صلاحیت
حاصل ہوگئی کہ وہ ایک لمحہ میں تصویر بنا لیتا ہے اور اس آلے کے بغیر کئی گھنٹوں
میں بھی ایسی تصویر نہیں بنا سکتا، اس سب کے باوجود ان حضرات کے نزدیک
اس عمل میں انسان کا عمل دخل نہیں۔ اسی طرح تصویر کھینچنے والے کا اس آلے کو
متوجہ کرنا اور پھر جس چیز کی تصویر کھینچنی منظور ہے اس کی طرف آلے کو درست
کر کے لگانا اور اس سے پہلے اس آلے کے اندر قلم لگانا اور اس کے علاوہ

دوسرے کام جن سے میں واقف نہیں، یہ سب کام بھی ایسے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک ان میں انسان کے عمل کو دخل نہیں۔ ان حضرات کے نزدیک دونوں قسم کی تصاویر میں تفریق کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی انسان کی عکسی تصویر کو گھر میں لٹکانا ان حضرات کے نزدیک جائز ہوگا لیکن ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کو لٹکانا جائز نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی کوئی مثال سوائے بعض قدیم خشک اہل ظاہر کے کہیں اور نہیں دیکھی، وہ بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اس حدیث میں براہ راست پانی میں پیشاب کرنے سے ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی برتن میں پیشاب کرے اور پھر اس پیشاب کو پانی میں بہادے تو اس کی اس حدیث میں ممانعت نہیں۔

شیخ محمد علی الصابونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے ”حکم الاسلام فی التصوير“ میں اور ”تفسیر آیات الاحکام“ میں فرماتے ہیں۔

إن التصوير الشمسی لا یخرج عن کو نہ
نوعاً من انواع التصوير فما یخرج بالآلة
یسمى صورة و الشخص مصوراً فهو وان
كان لا یشمله النض الصریح لأنه لیس
تصویراً بالید و لیس فیہ مضاهاة لخلق اللہ
إلا أنه لا یخرج عن کو نہ ضرباً من ضروب

التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على
حد الضرورة۔

(حکم الاسلام فی التصوير، ص ۱۵)

یعنی عکسی تصویر بھی تصاویر کے اقسام میں سے ایک قسم ہونے سے خارج نہیں، اسی وجہ سے آلہ (کیمرہ) کے ذریعہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے اس کو بھی تصویر کہا جاتا ہے اور تصویر کھینچنے والے کو ”مصوّر“ کہا جاتا ہے، پس اگرچہ نص صریح اس تصویر کو شامل نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر نہیں اور اس تصویر میں اللہ تعالیٰ کے عمل پیدائش سے مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے لیکن اس کو بھی تصویر کی ایک قسم ہونے سے خارج نہیں کر سکتے، لہذا صرف ضرورت کے دائرے میں اس کی اباحت کو محدود رکھنا چاہئے۔

شیخ ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”فقہ السیرة“ میں فرماتے ہیں۔

والحق أنه لا ينبغي تكلف أي فرق بين
أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمر
ونظراً لإطلاق لفظ الحديث - هذا فيما
يتعلق بالتصوير أما الا تخاذ فلا فرق بين
الفوتوغرافي وغيره - (فقہ السیرة ص ۳۸۰)

صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ مطلق ہونے پر نظر کرتے ہوئے اور حکم کو

جامع بنانے کے لئے تصویر کی مختلف اقسام کے درمیان فرق کا تکلف کرنا مناسب نہیں۔ یہ حکم تو تصویر سے متعلق ہے، جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے تو اس میں کیمرہ کے ذریعہ تصویر بنانے اور اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے تصویر بنانے میں کوئی فرق نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نقش و نگار کے ذریعہ بنائی ہوئی تصاویر اور عکسی تصاویر کے درمیان جو تفریق ہے، اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اصلاً حرام اور غیر مشروع ہو، آلہ کے بدل جانے سے اس کا حکم نہیں بدلتا، مثلاً شراب حرام ہے، چاہے اس کو ہاتھ سے بنایا گیا ہو، چاہے جدید مشینوں کے ذریعہ بنایا گیا ہو یا مثلاً قتل کرنا حرام ہے، چاہے کوئی شخص چھری سے قتل کرے یا گولی چلا کر قتل کرے۔ یہی معاملہ تصویر کا ہے، شریعت نے تصویر بنانے اور رکھنے کو منع فرمایا ہے، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تصویر مصور کے برش سے بنائی گئی ہو یا کیمرہ کے ذریعہ کھینچی گئی ہو۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

ضرورت کے وقت تصویر کھچوانا

بہر حال! یہ تو تصویر کا اصل حکم تھا جو ہم نے اوپر تفصیل سے عرض کیا۔ جہاں تک کسی ضرورت کے لئے تصویر کھچوانے کا تعلق ہے جیسے پاسپورٹ کے لئے یا ویزے کے حصول کے لئے یا شناختی کارڈ کے لئے تصویر کھچوانا یا ایسے مواقع پر تصویر کھچوانا جہاں انسان کے چہرے کی شناخت ضروری ہو، ان

ضروریات کے لئے تصویر کی اجازت دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی ضرورت کے مواقع کو حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ”سیر کبیر“ میں فرماتے ہیں۔

وان تحققت الحاجة له الى استعمال
السلاح الذى فيه تمثال فلا بأس باستعماله
یعنی اگر کسی ایسے ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت
پیش آجائے جس پر تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کے
استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:

لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة
كما فى تناول الميتة - (شرح السرخسى ۲: ۲۷۸)
کیونکہ ضرورت کے مواقع حرمت سے مستثنیٰ ہوتے
ہیں جیسے ضرورت کے وقت مردہ جانور کھانا۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں۔

ان المسلمین یجبایعون بدر اہم الاعاجم فیہا
التماثل بالتیجان ولا یمنع احد عن المعاملة
بذلك - (حوالہ بالا)

بیشک مسلمان عجمیوں کے ایسے دراہم کے ذریعہ خرید

وفروخت کرتے ہیں جن پر تاج پوش بادشاہ کی تصویر
بنی ہوتی ہے، ان دراہم کے ذریعہ معاملات کرنے
سے کوئی بھی منع نہیں کرتا۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

لابأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة
دراهم العجم وان كان فيها تمثال الملك
على سريره و عليه تاجه۔

(شرح السرخسی ۳: ۲۱۲)

آدی کے لئے اہل عجم کے دراہم کے ساتھ نماز پڑھنے
میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس دراہم پر تخت نشین تاج
پوش بادشاہ کی تصویر بنی ہو۔

اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گڑیا سے کھیلنے کی اجازت عطا فرمائی اور
فقہاء نے عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ گواہی کے وقت اپنا چہرہ
کھول دے۔

ٹی وی اور وڈیو

جہاں تک ٹی وی اور وڈیو کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ
دونوں آلات جن بے شمار منکرات مثلاً بے حیائی، فحاشی، عورتوں کا زیب و

زینت کے ساتھ یا نیم برہنہ حالت میں سامنے آنا اور اس کے علاوہ فسق و فجور کے دوسرے اسباب پر مشتمل ہیں، ان پر نظر کرتے ہوئے ان آلات کا استعمال حرام ہے۔ لیکن یہ دونوں آلات مندرجہ بالا تمام منکرات سے بالکل خالی ہوں تو کیا ان پر نظر آنے والی تصویر پر تصویر ہونے کا حکم لگا کر یہ کہا جائے گا کہ تصویر ہونے کی بنیاد پر ان کو دیکھنا حرام ہے؟

احقر کو اس بارے میں تامل ہے، اس لئے کہ وہ تصویر حرام ہے جو اس طرح منقش ہو یا اس طرح تراشی گئی ہو کہ وہ تصویر کسی چیز پر ثابت اور مستقر ہو جائے اور کفار عبادت کے لئے اس طرح کی تصاویر استعمال کیا کرتے تھے، لیکن وہ تصویر جس کو قرار اور ثبات حاصل نہیں اور وہ تصویر جو کسی چیز پر مستقل طور پر منقش نہیں، ایسی تصویر تصویر کے بجائے ”سائے“ سے زیادہ مشابہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹی وی اور وڈیو پر آنے والی تصاویر کسی بھی مرحلے پر دائم اور مستقر نہیں ہوتیں، صرف ”فلم“ کی شکل میں موجود رہتی ہیں، کیونکہ جس صورت میں اسکرین پر براہ راست انسانی تصاویر دکھائی جا رہی ہوں اور وہ انسان دوسری طرف کیمرے کے سامنے موجود ہو، اس صورت میں تو اس انسان کی تصویر نہ تو کیمرہ میں ثابت رہتی ہے اور نہ ہی اسکرین پر ثابت اور مستقر رہتی ہے، لیکن درحقیقت وہ بجلی کے ذرات ہوتے ہیں جو کیمرہ سے اسکرین کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں اور پھر اسی اصلی ترتیب سے اسکرین پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ ذرات زائل اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جس صورت میں تصاویر کو وڈیو کیسٹ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس صورت میں بھی اس

کیسٹ کے فیتے پر تصویر منقش نہیں ہوتی بلکہ وہ بجلی کے ذرات ہوتے ہیں جن میں کوئی تصویر نہیں ہوتی، البتہ جب وہ ذرات اسکرین پر ظاہر ہوتے ہیں تو دوبارہ اپنی اصلی ترتیب سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اسکرین پر ان کو ثبات اور استقرار حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک مرتبہ ظاہر ہونے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں، لہذا کسی بھی مرحلے پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ تصویر کسی چیز پر دائمی طور پر ثابت ہو کر منقش ہو گئی ہو، بہر حال اس تصویر پر ثابت اور مستقر تصویر کا حکم لگانا مشکل ہے۔ رحم اللہ امرأً هداً للصواب في ذلك، واللہ سبحانہ اعلم۔

۳ ربیع الاول ۱۳۲۲ھ

مطابق ۶ مئی ۲۰۰۳ء



حرام اشیاء سے علاج کا حکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

حرام اشیاء سے علاج کا حکم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ . وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

حدیث عربیہ

عن انس بن مالك رضى الله عنه أن ناساً من
عربية قدموا على رسول الله صلى الله عليه
وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ان شئتم ان
تخرجوا الى ابل الصدقة فتشربوا من ألبانها
وأبوها -

(مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ قبیلہ عربینہ کے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، وہ لوگ سوزش کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو مدینہ سے باہر صدقہ کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔

جو حضرات فقہاء حرام اور ناپاک چیزوں سے علاج کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ مندرجہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حرام اور ناپاک چیزوں سے علاج کے بارے میں فقہاء کے مذاہب مختلف ہیں۔

حنابلہ کا مذہب

حضرات حنابلہ حرام چیزوں سے علاج کرنے کو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولا يجوز التداوى بمحرم ولا بشئى فيه
محرم مثل البان الأتن ولحم بشئى من
المحرمات ولا شرب الخمر للتداوى به
لما ذكرنا من الخبر۔

(المغنى، كتاب الاطعمة، ج ۱۱ ص ۸۳) (والشرح الكبير، ج ۱۱ ص ۱۰۸)

حرام چیزوں سے علاج جائز نہیں۔ اور نہ ہی ایسی چیز

سے جس میں حرام چیز شامل ہو جیسے گدھیوں کے دودھ سے اور حرام جانوروں کے گوشت سے علاج کرنا، اور علاج کے لئے شراب پینا بھی جائز نہیں جیسا کہ ہم نے حدیث سے بیان کیا۔

شوافع کا مذہب اور ان کی دلیل

شوافع کے نزدیک ایسے محرمات سے علاج کرنا درست ہے جس میں نشہ نہ ہو، بشرطیکہ وہی چیز اس بیماری کے علاج کے لئے معتین ہو، لہذا نشہ آور چیز سے علاج کرنا ان حضرات کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ”مجموع شرح المہذب“ میں فرماتے ہیں۔

مذہبنا جواز التداوی بجمیع النجاسات
سوی المسکر..... دلیلنا حدیث العرنیین
وهوفی الصحیحین کما سبق وهو محمول
علی شربہم الأبول للتداوی کما هو ظاہر
الحدیث، و حدیث ”لم یجعل شفاءکم“
محمول علی عدم الحاجة الیہ بأن یکون
ہناک ما یغنی عنہ ویقوم مقامہ من الأدوية
الطاهرة وقال البیهقی، ہذان الحدیثان ان
صحاحملا علی النهی عن التداوی بالمسکر
وعلی التداوی بالحرام من غیر ضرورة

للجمع بينها وبين حديث العرنيين -

(المجموع شرح المهدب، ج ۹، ص ۵۲)

یعنی ہمارا مذہب یہ ہے کہ سوائے نشہ آور چیز کے تمام ناپاک چیزوں سے علاج جائز ہے۔ ہماری دلیل ”حدیث العرنيين“ ہے جو صحیحین میں مذکور ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے علاج کے طور پر پیشاب پینے پر محمول ہے جیسا کہ ظاہر حدیث یہی ہے اور حدیث شریف میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ”لم يجعل شفاء کم فیما حرم علیکم“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفاء نہیں رکھی جو تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب علاج کے لئے اس چیز کی ضرورت نہ ہو بلکہ علاج کیلئے اس کے متبادل کوئی دوسری پاک چیز بھی موجود ہے جو اس حرام چیز سے مستثنیٰ کرنے والی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر (ممانعت والی) یہ دونوں حدیثیں صحیح ہوں تو ان ممانعت والی حدیثوں کو ”تداوی بالسکر“ سے نہیں پر محمول کیا جائے گا اور بلا ضرورت تداوی بالحرام والی صورت پر محمول کیا جائے گا تاکہ ان احادیث کے درمیان اور حدیث عربین کے درمیان تطبیق ہو سکے۔

مالکیہ کا مذہب

مالکیہ کا مذہب اس مسئلہ میں حنابلہ کی طرح ہے، لہذا ان کے نزدیک تداوی بالحرم کسی حال میں جائز نہیں۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وان كانت المیة قائمة بعینها فقد قال

سحنون لا يتداوى بهابحال ولا بخنزير،
لأن منها عوضاً حلالاً، بخلاف المجاعة
وكذلك الخمر لا يتداوى بها۔

(تفسیر قرطبی، سورۃ بقرہ: ۲۱۳)

اگر مردہ جانور بعینہ موجود ہو تو اس کے بارے میں
امام سحنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعہ
کسی حال میں علاج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی خنزیر
سے علاج کیا جائے گا۔

اسی طرح امام مواق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”التاج والا کلیل“ میں فرماتے
ہیں:

وأما التداوى بها (أى بالخمير) فمشهور
المذهب أنه لا يحل، وإذا قلنا: انه لا يجوز
التداوى بها لا يجوز استعمالها للضرورة
فالفروق ان التداوى لا يتيقن البرء بها۔

(التاج والا کلیل للمواق ج ۳ ص ۲۳۳)

شراب سے علاج کے بارے میں مشہور مذہب یہ ہے
کہ حلال نہیں، اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس سے علاج
کرنا جائز نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت کے لئے
استعمال کرنا جائز نہیں، فرق یہ ہے کہ اس سے علاج

کے نتیجے میں صحت حاصل ہو جانا یقینی نہیں ہے۔

احناف کے مذاہب اور ان کے استدلالات

اس مسئلہ میں علماء احناف کے اقوال مختلف ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ”تداوی بالمحرم“ جائز نہیں، چنانچہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه (يعنى بول مايو كل لحمه) للتداوى وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعند محمد رحمه الله يجوز شربه للتداوى وغيره لأنه طاهر عنده وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز شربه للتداوى لا غير، عملاً بحديث العربيين -

(المبسوط للسرخسى باب الوضوء والغسل ج ۱ ص ۵۴)

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق علاج وغیرہ کے لئے ان جانوروں کا بھی پیشاب پینا جائز نہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علاج وغیرہ کے لئے ایسے جانوروں کا پیشاب پینا جائز ہے کیونکہ وہ پاک

ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث عربین پر عمل کرتے ہوئے صرف علاج کے طور پر ایسے جانوروں کا پیشاب پینا جائز ہے، دوسرے مقاصد کے لئے جائز نہیں۔

علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ ”البحر الرائق“ میں فرماتے ہیں:

وقال ابو یوسف: یجوز للتداوی لأنه لماورد
 الحدیث به فی قصة العربین جاز التداوی
 به وان كان نجسا..... ووجه قول ابی حنیفة
 رحمه الله أنه نجس والتداوی بالطاهر
 المحرم کلین الأثنان لا یجوز فما ظنک
 بالنجس، ولأن الحرمة ثابتة فلا یعرض عنها
 إلا بتیقن الشفاء وتأویل ماروی فی قصة
 العربین أنه علیه السلام عرف شفاءهم فیہ
 وحیاً ولم یوجد تیقن شفاء غیرهم لأن
 المرجع فیہ الأطباء وقولهم لیس بحجة
 قطعية وجاز أن یكون شفاء قوم دون قوم
 لاختلاف الأمزجة حتی لو تعین الحرام
 مدفعا للهلاک الآن یحلّ کالمیتة والخمر عنه
 الضرورة۔

(البحر الرائق ج ۱ ص ۱۱۵)

یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام سے علاج کرنا

جائز ہے، اس لئے کہ عربین کے واقعہ میں جو حدیث وارد ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعہ علاج کرنا جائز ہے اگرچہ وہ ناپاک ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، جب ایسی چیز جو پاک ہو اور حرام ہو جیسے گدھی کا دودھ، اس سے علاج جائز نہیں تو پھر وہ چیز جو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے یہ کہ اس کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، لہذا جو چیز حدیث سے ثابت ہو، اس سے اس وقت تک انحراف نہیں کیا جائے گا جب تک شفاء یقینی نہ ہو۔ اور عربین والے قصہ کی یہ تاویل کی جائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں شفاء کا یقینی ہونا وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کے حق میں شفاء کا یقینی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ شفاء کا یقینی اور غیر یقینی کا پتہ چلانے کا ذریعہ اطباء ہیں اور اس بارے میں ان کا قول حجت قطعہ نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاء ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو شفاء نہ ہو، کیونکہ مزاجوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں متعین طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے ذریعہ مریض کی جان بچ جائے گی تو وہ چیز حلال ہو جائے گی جیسے ضرورت کے وقت مردار جانور اور شراب حلال ہو جاتی ہے۔

اکثر مشائخ حنفیہ کا فتویٰ اور ان کے دلائل

لیکن اکثر مشائخ حنفیہ نے حرام سے علاج کرنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، بشرطیکہ ماہر معالج یہ بتائے کہ اس مریض کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور

دوائیں ہے، چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا
 في التداوى بالمحرم، ففي النهاية
 عن الذخيرة: الا ستشفاء بالحرام
 يجوز اذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم
 دواء آخر اه وفي فتاوى
 قاضیخان معزیا الی نصرین سلام:
 معنی قول علیہ السلام: ان اللہ لم
 يجعل شفاء کم فیما حرم علیکم،
 انما قال ذلك فی الأشياء التي
 لا يكون فيها شفاء فأما اذا كان فيها
 شفاء فلا بأس به، ألا ترى ان
 العطشان يحل له شرب الخمر
 للضرورة اه -

یعنی ہمارے مشائخ کے درمیان ”تداوی بالحرم“ کے مسئلے میں اختلاف واقع ہوا ہے، چنانچہ ”نہایہ“ میں ”ذخیرہ“ سے یہ منقول ہے کہ حرام سے شفاء حاصل کرنا جائز ہے جب یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر شفاء ہے اور کسی دوسری دواء کے بارے میں علم نہ ہو۔ فتاویٰ قاضی خان میں نصر بن سلام کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد:

”ان اللہ لم يجعل شفاء کم فیما

حرم علیکم“

اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاء ان چیزوں میں نہیں رکھی جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔

ان اشیاء کے بارے میں ہے کہ جن میں شفاء نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز میں شفاء ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پیاسے انسان کے لئے ضرورت کے وقت شراب پینا حلال ہے۔

اوپر کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ حنفیہ نے تداوی بالحرم کے جواز میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے جبکہ طبیب کو اس بیماری کے لئے کوئی دوسری دوا معلوم نہ ہو، البتہ یہ بات مجھے کہیں نہیں ملی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواز کے قول میں اس بات کو شرط قرار دیا ہے کہ طبیب کو اس مرض کے لئے دوسری دوا کا علم نہ ہو یا شرط قرار نہیں دیا؟ امام سرحسی اور علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہما کی نقل کردہ عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کسی شرط کے بغیر مطلق تداوی بالحرم جائز ہے، لیکن مشائخ حنفیہ نے ان کے قول کو صرف خاص صورت میں ہی اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ طبیب کو جب اس مرض کے لئے کسی دوسری حلالی دوا کا علم نہ ہو۔

حرام اشیاء سے علاج ناجائز ہونے پر استدلالات

جو حضرات فقہاء "تداوی بالحرم" کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ مندرجہ

ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔

۱۔ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله

انزل الداء والدواء وجعل الكل داء دواء

فتداؤوا ولا تتداؤوا بالحرام۔

(ابو داؤد، کتاب الطب، باب الأدوية المكروهة)

حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں نازل فرمائی ہیں اور ہر بیماری کے لئے دوا ہے، لہذا علاج کرو اور حرام سے علاج مت کرو۔

۲۔ عن عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ
 أن طبيباً سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن
 ضفدع يجعلها فی دواء فنہا النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم عن قتلها۔ (ایضاً)

حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
 طبیب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں سوال کیا
 کہ کیا میں اس کو دواء میں شامل کر سکتا ہوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس کے قتل سے منع فرمایا۔

۳۔ عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: نہی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء
 الخبیث۔ (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ناپاک دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

۴۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ: ذکر
 طارق بن سوید اوسوید بن طارق، سأل
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر فنہا

ثم سألہ فنهاہ فقال له: يا نبي الله ! انها
دواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا
ولكنها داء-

(ايضاً، وابن ماجه فى الطب، رقم ۳۵۰۰، والدارمى فى الاشربة ۲: ۳۸، رقم ۴۱۰۲)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید یا سوید بن طارق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے استعمال کے بارے میں سوال کیا، آپ نے منع فرمادیا، دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر منع فرمادیا، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو ایک دوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔

۵ - اخبرنا احمد بن علی بن المثنى حدثنا
ابوخيثمة حدثنا جرير عن الشيباني عن
حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة:
اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز فدخل
رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يغلى
فقال: ما هذا؟ فقلت: ان ابنتى اشتكت
فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فى
حرام-

(اخرج ابن حبان فى صحيحه، وراجع: مواردن الظمان للهيثمى ص ۳۳۹، رقم ۳۹۷)

حضرت ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہوگئی تو میں

نے ایک کوزہ میں اس کے لئے نبیذ بنائی، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس نبیذ میں اُبال آ رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، اس لئے میں نے اس کے لئے نبیذ بنائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے اندر تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی ہے۔

۶۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح معانی الآثار“ کے ”باب ما یؤکل لحمہ“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

ما کان اللہ لیجعل فی رجس او فیما حرم شفاء
یعنی اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور حرام چیز میں شفاء نہیں رکھی۔

ایک اور روایت حضرت ابووائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ:

اشتکی رجل منا ففعت له السكر فأتینا عبد
اللہ فسألناه فقال: ان اللہ لم يجعل شفاء کم
فیما حرم علیکم۔

یعنی ہم میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کے لئے بطور علاج نشہ آور چیز بتلائی گئی، تو ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفاء ان چیزوں میں نہیں رکھی جو تم پر حرام کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

نے یہ اثر صحیح بخاری کی ”کتاب الا شربة“ ، باب شراب الحلواء
والعسل“ میں تعلقاً ذکر فرمایا ہے۔

۷۔ عن عطاء قال: قالت عائشة رضی اللہ

عنها: اَللّٰهُمَّ لَا تُشَفِّ مَن اسْتَشَفَى بِالْخَمْرِ۔

(شرح معانی الآثار للطحاوی)

حضرت عطاء روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس شخص کو

شفاء مت دے جو شراب سے شفاء حاصل کرے۔

تداوی بالمحرم کے جواز کے قائل ائمہ کی طرف سے جواب

جو حضرات فقہاء ”تداوی بالمحرم“ کے جواز کے قائل ہیں، وہ مندرجہ

بالا احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ احادیث اور آثار ”حالت اختیار“ پر

محمول ہیں۔ حالت اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس مرض کی دوسری دواء کے

بارے میں علم ہو۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عمدة القاری“ (ج ۱ ص ۲۹۰)

میں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیض الباری“ (ج ۱ ص ۳۲۹)

میں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”بذل الجھود“ (ج ۱ ص

۱۹۹) میں علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”معارف السنن“ (ج ۱

ص ۲۷۸) میں اسی جواب کو اختیار فرمایا ہے۔

اور علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”امانی الاحبار“ میں

بھی ان احادیث کا یہی جواب دیا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ اضافہ بھی فرمایا ہے کہ:

جاء اليقين باباحة الميتة والخنزير عند
خوف الهلاك من الجوع، فقد جعل تعالى
شفاء نامن الجوع المهلك فيما حرم علينا في
تلك الحال ونقول: نعم ان الشئى مادام
حراماً علينا فلا شفاء لنا فيه فاذا اضطررنا
اليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال
فهولنا حينئذ شفاء، وهذا ظاهر الخبر۔

یعنی اگر بھوک سے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو تو اس وقت مردار جانور اور خنزیر کا مباح ہونا یقینی ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والی بھوک کے وقت ایسی چیز کے اندر ہمارے لئے شفاء رکھی ہے جو اس حالت میں ہمارے اوپر حرام تھی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک کوئی چیز ہم پر حرام ہوگی، اس وقت تک اس کے اندر ہمارے لئے شفاء نہیں ہوگی، لیکن جب ہم اس کے استعمال کی طرف مجبور ہو جائیں گے تو اس وقت وہ چیز ہم پر حرام نہیں رہے گی بلکہ وہ حلال ہو جائے گی، لہذا اس وقت وہ چیز ہمارے لئے شفاء بن جائے گی، یہ بات بالکل واضح ہے۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔



جانوروں کے ذبح کے احکام

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ مبین

مبین اسلامک پبلشرز

الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

جانوروں کے ذبح کے احکام اور غیر مسلم ممالک

سے درآ مذ شدہ گوشت کے احکام

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
 على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه
 اجمعين - وعلى كل من تبعهم باحسان الى
 يوم الدين - اَمَّا بَعْدُ!

اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے حلال جانوروں کا گوشت کھانا اور ان جانوروں کے دوسرے اجزاء سے نفع اٹھانا حلال فرمایا ہے، لیکن یہ حلت مطلق نہیں ہے، بلکہ ان احکام کے تابع ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ان احکام کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوان بھی درحقیقت انسان ہی کی طرح ہے، جس طرح انسان کے اندر روح، ادراک اور احساس پایا جاتا ہے، اسی طرح حیوان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جس

طرح انسان راحت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح جانور بھی راحت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس اعتبار سے تو انسان کے لئے جانور کو ذبح کرنا، اس کو کھانا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہونا چاہئے۔

لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کائنات کے لئے مخدوم بنایا ہے، اور دوسری تمام مخلوق کو انسان کے مصالح اور فائدے کے لئے پیدا فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (۱)

یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے حیوان کو ذبح کر کے کھانا خلاف اصل محض اپنے فضل سے حلال فرما دیا ہے، لیکن اس حلت کو بعض احکام تعبدی کے تابع بنا دیا ہے، اب انسان کا ان احکام پر عمل کرنا درحقیقت اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ حیوان کی حلت اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ لہذا انسان اپنے جیسے جاندار سے انتفاع حاصل کرنے اور اس کو کھا کر لذت حاصل کرنے کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا اعتراف نہ کر لے اور جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے۔ اور جب تک ان احکام کا التزام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے حیوان کی روح نکالنے کے لئے مشروع فرمائے ہیں۔

”شریعت اسلامیہ“ ذبح حیوان کے بارے میں خاص طریقے اور اصول مقرر کرنے اور اس کے احکام بیان کرنے میں دوسری تمام شریعتوں سے بالکل ممتاز ہے، لہذا ”ذبح حیوان“ کا معاملہ ایسے معمولی امور میں سے نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت اور مصلحت کے مطابق اپنی آسانی کے لئے جس طرح چاہے انجام دے اور وہ کسی اصول اور احکام کا پابند نہ ہو، بلکہ یہ معاملہ ان ”امور تعبّدیہ“ میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کردہ احکام کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لئے لازم ہے۔

چنانچہ ”ذبح حیوان“ کے بارے میں مفتی محمد عبدہ اور ان کے شاگرد شیخ رشید رضا کا جو مسلک ہے کہ یہ ”امور عادیہ“ میں سے ہے ”امور تعبّدیہ“ میں سے نہیں ہے اور انسان کے لئے اس معاملے میں آزادی کے ساتھ ہر قسم کا تصرف کرنا جائز ہے (۱) صریح خطا ہے اور نصوص صریحہ سے متضاد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے:

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل
ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمّة اللّٰہ
ورسولہ۔

جو شخص ہماری طرح نماز ادا کرے اور ہمارے قبلے کی
طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، ایسا شخص

مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے۔

اس سے زیادہ صریح ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا

دماؤهم وأموالهم إلا بحقها (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ“ کہیں، جب وہ لوگ یہ کلمہ کہیں اور ہماری جیسی نماز ادا کریں اور ہمارے قبلے کا استقبال کریں اور ہمارے طریقے سے ذبح کریں تو اس وقت ان کا خون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہے۔

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ذبح کو نماز اور استقبال قبلہ کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے اور اس کو ”شریعت اسلامیہ“ کے امتیازات میں سے شمار فرمایا جس کے ذریعہ مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا

(۱) صحیح بخاری، باب فضل استقبال القبلة، حدیث نمبر ۳۹۱، ۳۹۲، عن انس بن مالک

رضی اللہ عنہ۔

ہے، اور یہ چیز اسلام کی اُن علامات اور شعائر میں سے ہے جس کے ذریعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا خون اور مال دوسرے مسلمانوں سے محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس بات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے کہ مشروع طریقے سے ذبح حیوان امور تعبدیہ میں سے ہے اور دین کے ایسے شعائر میں سے ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، چنانچہ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" میں فرماتے ہیں:

وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر.

فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام

أهله. ما لم يظهر منه خلاف ذلك (۱)

اس حدیث سے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں

کا معاملہ ظاہر پر محمول ہے، لہذا جو شخص دین کے شعار کا

اظہار کرے تو جب تک اس سے اس کے خلاف کوئی

بات سرزد نہ ہو اس پر دین کے ماننے والوں کے

احکام جاری کئے جائیں گے۔

لہذا اگر "حیوان کا ذبح" خاص احکام کے تابع نہ ہوتا تو پھر ہر حیوان

کا کھانا مسلمان کے لئے جائز ہوتا۔ چاہے اس جانور کو کسی آتش پرست نے

ذبح کیا ہو، یا بت پرست یا دھریے نے ذبح کیا ہو، صرف مسلمان یا کتابی کے ذبیحہ پر حلت موقوف نہ ہوتی، اور یہ واضح بات ہے کہ حیوان کے علاوہ غذائیں جو نباتات وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ”اسلام“ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ان کا بنانے والا مسلمان یا کتابی ہو، بلکہ ان غذاؤں کو بنانے والے کے مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے استعمال کرنا جائز ہے، اب اگر ”ذبح حیوان“ ان امور عادیہ میں سے ہوتا جن میں کوئی شرعی پابندی نہیں تو اس صورت میں ذبح کرنے والے کے دین سے قطع نظر کر کے حیوان کا گوشت کھانا جائز ہوتا (حالانکہ ایسا نہیں ہے) لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”شریعت اسلامیہ“ میں حیوانی غذاؤں کو خصوصیت دی گئی ہے اور ان کے استعمال کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت میں شرعی ذبح کے بیان کردہ احکام کے موافق ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ ”شکار اور ذبح“ کے احکام فقہ اسلامی کے اہم ابواب میں شمار ہوتے ہیں، اور فقہاء نے یہ احکام قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہؓ و تابعینؒ کی روشنی میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور فقہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ”کتاب الصيد والذبائح“ شامل نہ ہو۔ اس مقالے میں ان تمام احکام کو سمیٹنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ذبح کے بنیادی اصول بیان کرنا اور ان اصولوں کو موجودہ دور کے حالات پر منطبق کرنا مقصود ہے، چنانچہ اس مقالے کو مندرجہ ذیل موضوعات پر تقسیم کیا گیا ہے:

۱۔ شرعی ذبح اور اس کی شرائط

الف:- حیوان کی روح نکالنے کا طریقہ۔

ب:- ذبح کے وقت ”بسم اللہ“ پڑھنا۔

ج:- ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا۔

۲۔ موجودہ دور کے مذبح خانوں میں ذبح کے طریقے۔

۳۔ ذبح کرنے والے کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی صورت میں

جانور کا حکم۔

۴۔ درآ مد شدہ گوشت کا حکم۔

اللہ تعالیٰ صحیح اور درست بات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی

مرضیات کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔ آمین۔

﴿۱﴾ شرعی ذبح اور اس کی شرائط

”تذکیہ“ اور ”ذکاة“ لغوی اعتبار سے پورا کرنے کے معنی میں آتے

ہیں، اسی وجہ سے اگر لفظ ”ذکاء“ عمر اور فہم کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی

عمر اور سمجھداری میں کامل ہونے کے آتے ہیں۔ (۱) اور ذبح کے شرعی طریقے

کو ”ذکاة“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جن

کے نتیجے میں جانور کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ

(۱) لسان العرب لابن منظور، ج ۱۳، ص ۲۸۸، لفظ ”ذکاء“

نے سورۃ مائدہ کی آیت ”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ:

أَي أَدْرَكْتُمْ ذَكَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ - (۱)

بعض علماء نے فرمایا کہ ”تذکیہ شرعی“ ”تذکیہ“ بمعنی ”تطیب“ (خوشبودار بنانا) سے ماخوذ ہے، جیسے اہل عرب بولتے ہیں ”رائحة ذکیة“ بہترین خوشبو، چنانچہ جب حیوان کا خون بہا دیا جاتا ہے تو اس کی خوشبو بھی عمدہ ہو جاتی ہے۔

یہ تو اس کے لغوی معنی تھے۔ ”تذکیة“ کے اصطلاحی معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائے ہیں:

أنه عبارة عن إنهار الدم و فرى الاوداج فى
المد بوح، والنحرفى المنحور، والعقرفى
غير المقدور عليه مقروناً بنية القصد لله
تعالى و ذكره عليه - (۲)

”تذکیة“ کے اصطلاحی معنی ہیں ”خون بہانا“ اور اگر وہ جانور ذبح کیا جانے والا ہے تو اس کی رگیں کاٹنا اور نخر کیا جانے والا ہے (جیسے اونٹ) تو اس کو نخر کرنا اور اگر اس جانور کی رگیں کاٹنے یا اس کو نخر کرنے پر

(۱) تفسیر قرطبی، ج ۶، ص ۵۲، ۵۳.

(۲) تفسیر قرطبی، ج ۶، ص ۵۲، ۵۳.

قدرت نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لئے حلال کرنے کی نیت سے اللہ کا نام لے کر زخمی کرنا۔

چونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی ”تذکیۃ“ کی اس اصطلاحی تعریف میں بعض شرائط اختلافی ہیں، اس لئے احسن یہ ہے کہ ”تذکیۃ“ کی اصطلاحی تعریف یہ کی جائے:

از هاق روح الحيوان بالطريق المشروع
الذي يجعل لحمه حلالاً للمسلم۔

ایسے مشروع طریقے سے حیوان کی روح نکالنا جس کے نتیجے میں اس کا گوشت مسلمان کے لئے حلال ہو جائے۔

جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے جو فقہاء نے ”ذکاة شرعی“ کے لئے بیان فرمائی ہیں، وہ تین عناصر پر مشتمل ہیں: ﴿۱﴾ روح نکالنے کا صحیح طریقہ۔ ﴿۲﴾ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ﴿۳﴾ ذبح کرنے والے کے اندر ذبح کی اہلیت ہونا (یعنی اس کا مسلمان یا کتابی ہونا) اب ہم ان تینوں موضوعات پر تفصیل سے کلام کریں گے۔ واللہ المستعان۔

الف۔ حیوان کی روح نکالنے کا طریقہ

حیوان کی روح نکالنے کا وہ طریقہ جو شریعت اسلامیہ کے نزدیک معتبر اور ”ذکاة شرعی“ کی شرائط پورا کرنے کے لئے کافی ہے، یہ حیوان کے

بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، لہذا اگر جانور کے وحشی ہونے کی وجہ سے اس کو پکڑ کر ذبح کرنا ممکن نہیں ہے یا جانور مانوس تو ہے لیکن وہ بدک گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کسی بھی آلہ جارحہ سے اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہا دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، ایسے جانور کے حلال ہونے کے لئے اس کو ذبح کرنا یا اس کو نحر کرنا شرط نہیں ہے۔ ذکاۃ کی اس قسم کو ”ذکاۃ اضطراری“ کہا جاتا ہے۔ ”ذکاۃ اضطراری“ کے احکام کا بیان ہماری بحث سے خارج ہے۔

اور اگر اس جانور کے ذبح پر انسان کو قدرت حاصل ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ مانوس ہے، یا ہے تو وحشی لیکن اس پر قابو پایا گیا ہے تو ایسے جانوروں کے ذبح کے وقت اس کی رگیں کاٹ کر خون بہانا واجب ہے۔ اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

﴿۱﴾ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فی

حدیث طویل أن جدہ سأل رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم: أفندبح بالقصب؟ فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما أنهر

الدم وذكر اسم اللہ فکل - (۱)

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة،

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ ان کے دادا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم جانور کو بانس کے چھلکے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: جو چیز خون بہا دے اور اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو۔

اس حدیث میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے دادا نے ”ذبح“ کے بارے میں سوال کیا اور ”ذبح“ رگیں کاٹنے ہی کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ عطاء نے بخاری پر تعلق کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ (۱) لہذا سوال و جواب کے مجموعہ سے اس پر دلالت ہو رہی ہے کہ جانور کی اس طرح رگیں کاٹنے سے ”ذکاۃ شرعی“ حاصل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا خون بہہ جائے۔

﴿۲﴾ عن ابن عباس و أبي هريرة رضي الله
عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح
فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج تترك

حتی تموت - (۱)

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے چیرے سے منع فرمایا ہے، وہ یہ کہ جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ اس کی کھال کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں یہاں تک کہ وہ جانور مر جائے۔

”شریطة“ کی تفسیر میں علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”الشريطة“ الناقة ونحوها التي شرطت أي أترفي حلقها اثر يسير كشرطة الحجام من غير قطع الاو داج ولا اجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية يقطعون شيا يسيراً من حلقها، فيكون ذلك تذكيتهما عندهم، و إنما أضا فها ألى الشيطان كأن الشيطان

(۱) أبوداؤد، کتاب الأضاحی، باب المبالغة فی الذبح، امام ابوداؤد نے اس حدیث کی سند پر سکوت فرمایا ہے۔ البتہ اس کی سند میں ایک راوی ”عمرو بن عبداللہ الأسوار ہیں جن کو ”عمرو بن برق“ کہا جاتا ہے لا حافظ ابن حجر نے ”التقريب“ میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ”صدوق فيه لين“۔

حملہم علی ذلک۔ (۱)

”شریطتہ“ یہ ہے کہ کسی اونٹ وغیرہ کے حلق میں رگیں کاٹے اور خون بہائے بغیر تھوڑا سا چیرا لگایا جائے جیسے سینگی لگانے والا چیرا لگاتا ہے، اور یہ فعل زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جانور کے حلق کو تھوڑا سا کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے اور یہی ان کے نزدیک ”تذکیہ“ ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شیطان کی طرف اس لئے منسوب فرمایا کہ شیطان نے ہی ان کو اس عمل پر اکسایا تھا۔

﴿۳﴾ عن عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال: قلت: یا رسول اللہ ﷺ! أن أحدنا أصاب صیداً وليس معه سكين أیذبح بالمرؤة وشققة العصا؟ فقال: أمر الدم بماشتت واذکر اسم اللہ عزوجل۔ (۲)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) جامع الاصول لابن الاثیر، ج ۴، ص ۴۸۲، حدیث نمبر ۲۵۷۔

(۲) أبوداؤد، باب الذبیحة بالمرؤة، و سکت علیہ هو والمنذری۔

سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہم میں سے کوئی شخص شکار کا جانور پکڑے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ اس جانور کو کالچ اور لکڑی کے چھلکے سے ذبح کر سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: کہ جس چیز سے چاہو خون بہا دو۔ اور خون بہاتے وقت اس پر اللہ کا نام لو۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

انی أرسل کلبی فأخذ الصيد فلا أجد ما
أذکبه به فأذبحه بالمرؤة وبالعصا قال:
أنهر الدم بما شئت وا ذکر اسم الله
عز وجل (۱)

حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں شکار کرنے کے لئے کتا چھوڑتا ہوں اور اس کے نتیجے میں جانور شکار کر لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملتی جس سے

(۱) سنن نسائی، کتاب الاضاحی، باب اباحة الذبح بالعود، ج ۷، ص ۲۲۵، حدیث نمبر ۴۳۰۱۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ”مری بن قطری الکوفی“ ہیں جن کو ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ اور حافظ ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں ”لا یعرف“ تہذیب التہذیب، ج ۱۰، ص ۹۹۔

اس شکار کو ذبح کروں تو میں اس کو کالنج یا لکڑی سے
ذبح کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جس چیز سے چاہو خون بہادو اور اس کو ذبح
کرتے وقت اللہ کا نام لو۔

﴿۴﴾ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ
عنہما أنه قال: ما فری الاوداج فكله۔ (۱)
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
جس جانور کی رگیں کاٹ دی جائیں اس کو کھالو۔

مندرجہ بالا احادیث اور اس جیسی دوسری احادیث کی بنیاد پر فقہاء نے ”ذبح
شرعی“ کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس ذبح میں رگیں کاٹ دی جائیں۔
”اوداج و ذج“ بفتح تین کی جمع ہے اور یہ ایک رگ کا نام ہے جو
گردن میں ہوتی ہے، دراصل یہ دو رگیں ہوتی ہیں، چنانچہ علامہ ابن منظور
ابن سیدہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الودجان عرفان متصلان من الرأس الى
السخر والجمع ”اوداج“ (۲)
”ودجان“ یہ دو رگیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور سر سے

(۱) مؤطا امام مالک، کتاب الذبائح، باب ما يجوز من الذکاة فی حال الضرورة، ج ۲،

(۲) لسان العرب: ج ۲، ص ۳۹۷، تحت المادة۔

پھیڑے تک جاتی ہیں اور وَدَج کی جمع اوداج آتی ہے۔

لیکن بعض فقہاء نے لفظ ”وَدَج“ کے استعمال میں توسع اختیار کرتے ہوئے ”حلقوم“ اور ”مری“ کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ”حلقوم“ سانس کی نالی کو کہا جاتا ہے اور ”مری“ کھانے کی نالی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ثم الأوداج أربعة : الحلقوم و المری
والعرقان اللذان بينهما الحلقوم
والمری (۱)

اوداج چار رگیں ہیں، ایک حلقوم، ایک مری، اور دو وہ رگیں ہیں جن کے درمیان میں حلقوم اور مری ہوتی ہیں۔

اس میں تو کسی فقیہ کا اختلاف نہیں کہ ”ذبح شرعی“ کا اکل طریقہ یہ ہے کہ یہ چاروں رگیں کاٹ دی جائیں۔ (۲) لیکن اگر بعض رگیں کاٹ دی جائیں اور بعض رگیں چھوڑ دی جائیں تو اس جانور کے حلال ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

(۱) بدائع الصنائع: ج ۵، ص ۴۱،

(۲) المغنی لابن قدامة، ج ۱۱، ص ۴۵، دارالکتب العلمیہ، بیروت،

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلقوم اور مرئی کا کاٹنا واجب ہے اور زکاة شرعی کے لئے ان دو رگوں کا کاٹ دینا کافی ہے، اگرچہ ودجین میں سے کوئی ایک رگ بھی نہ کٹے۔ (۱)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں روایات مختلف ہیں، البتہ ان کی کتابوں سے ان کا راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حلقوم اور ودجین کو کاٹنا واجب ہے، ”مرئی“ کو کاٹنا واجب نہیں۔ (۲)

اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں روایات مختلف ہیں، چنانچہ ان کی ایک روایت تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ہے اور ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ ودجین کو حلقوم اور مرئی دونوں کے ساتھ کاٹنا واجب ہے، اس طرح ان کے نزدیک چاروں رگوں کو کاٹنا شرط ہے۔ (۳)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سی تین رگیں کاٹ دی جائیں اور ایک رگ چھوڑ دی جائے تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک حلقوم، مرئی اور ودجین میں سے ایک رگ نہ کاٹ دی جائے اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا۔

(۱) فتح الباری، ج ۹، ص ۶۴۱، الأم، ج ۲، ص ۲۵۹،

(۲) الذخیرة للقرافی، ج ۳، ص ۱۳۳،

(۳) المغنی لابن قدامة، ج ۱۱، ص ۴۳، ۴۵،

اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک چاروں رگوں کا اکثر حصہ نہ کاٹ دیا جائے اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا۔ (۱)

بہر حال! فقہاء کے درمیان مندرجہ بالا اختلاف کے باوجود تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ”ذکاة اختیاری“ کا محل حلق اور زرخہ ہے، جانور کے حلال ہونے کے لئے ان چار رگوں میں سے ایک سے زیادہ رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اور جن فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ وچین میں سے کم از کم ایک کا کٹنا ضروری ہے، ان کا قول راجح ہے، اس لئے کہ کامل طور پر خون کا بہانا اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے جب خون کی رگ کو کاٹ دیا جائے، چنانچہ امام قرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ويؤكده قوله عليه السلام : ما أنهر الدم

وذكر اسم الله فكل - (۲)

اس قول کی تائید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس جانور کو کھالو۔

اور خون کا بہانا خون کی رگیں کاٹنے سے حاصل ہوتا ہے، اور ”انہار“

(۱) بدائع الصنائع، ج ۵، ص ۴۱۔

(۲) الذخيرة للقرافي، ج ۲، ص ۱۳۳۔

کے اصل معنی ”وسعت“ اور ”گنجائش“ کے ہیں، ”نہر“ کو بھی ”نہر“ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی کے لئے گنجائش ہوتی ہے اور دن کو ”نہار“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ دن میں روشنی بہت وسیع ہوتی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ چار رگوں میں سے تین رگوں کا کٹنا تمام رگوں کے کٹنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ جن مسائل میں توسع ہے ان میں شریعت کا اصول ”للاکثر حکم الكل“ جاری ہوتا ہے، اور ”ذکاۃ شرعی“ ان چیزوں میں سے جس میں توسع پایا جاتا ہے، اس لئے کہ فقہاء کے درمیان کیفیت ذکاۃ کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بعض رگوں کا کٹ جانا ”ذکاۃ شرعی“ کے لئے کافی ہے۔ لہذا اس مسئلے میں ”اکثر“ ”کل“ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ (۱)

آلۃ ذبح

اس بارے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ ”ذکاۃ شرعی“ کے لئے آلۃ ذبح دھار دار ہونا واجب ہے کہ وہ آلۃ اپنی دھار کی وجہ سے جانور کو کاٹ دے یا پھاڑ دے، اپنے بوجھ اور وزن کی وجہ سے نہ پھاڑے، البتہ چھری یا چاقو ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو دھار دار ہو، چاہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہو یا پتھر کی ہو یا لکڑی کی ہو، اس کی دلیل وہ

حدیث ہے جو شیخین وغیرہ نے بیان فرمائی ہے:

عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قلت: یا
رسول اللہ ﷺ! إننا ملا قوا العدو غدًا
ولیس معنا مری، أفندبح بالقصب قال: ما
أنهر الدم وذكر اسم اللہ علیہ فكلوه، لیس
السن والظفر۔ (۱)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آئندہ کل ہم
دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ
کوئی چھری نہیں ہے، تو کیا ہم بانس سے جانور ذبح
کر لیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا
جائے، اس کو کھاؤ، بشرطیکہ دانت اور ناخن سے ذبح
نہ کیا گیا ہو۔

پچھے حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی روایت گزری ہے
کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ اور لکڑی کے چھلکے سے

ذبح کرنے کے بارے میں سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: جس چیز سے چاہو خون بہادو۔ لیکن تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے آلے سے قطع اور خرق ضروری ہے جو خون بہادے، اور اس آلے کے دھار دار ہونے کے وجوب پر تمام فقہاء متوابعین کا اجماع ہے۔ البتہ دانت اور ناخن کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، ائمہ جازبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے کسی حال میں بھی ذبح کرنا جائز نہیں، چاہے وہ جسم سے لگے ہوئے ہوں یا علیحدہ ہوں، اس لئے کہ ان کے بارے میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث عمومیت پر دلالت کر رہی ہے اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات ذبح میں سے دانت اور ناخن کو مستثنیٰ فرما دیا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا کو اس دانت اور ناخن پر محمول فرمایا ہے جو جسم کے ساتھ متصل ہو، اس لئے کہ اس صورت میں اس جانور کی موت گلا گھونٹنے کی وجہ سے واقع ہوگی۔ لیکن وہ دانت اور ناخن جو جسم سے متصل نہ ہوں، بلکہ کٹے ہوئے ہوں تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے ذکاۃ شرعی مع الکرہتہ حاصل ہو جائے گی۔ (۱)

جانور کی رگیں کاٹے بغیر روح نکالنا

ایسا جانور جس پر انسان کو ذبح کرنے کی قدرت حاصل ہے، اگر اس

کی رگیں کاٹے بغیر روح نکال دی جائے تو اس سے ”ذکاة شرعی“ حاصل نہیں ہوگی اور وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْحَنِزِيرُ
وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَّيْتُمْ۔ (۱)

حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور
جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس کا
گلا گھونٹا گیا ہو، جس کو غیر دھار دار بھاری آلے سے
مارا گیا ہو، جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو اور جو جانور
دوسرے جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے ہلاک
ہو گیا ہو، اور جس جانور کو درندے نے کھایا ہو، البتہ وہ
جانور جس کو تم ذبح کرو۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”مُنْخَبِقَةُ“ وہ جانور ہے جس کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے واقع ہو
جائے، چاہے قصد اس کا گلا گھونٹا جائے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے، مثلاً کوئی جانور
اپنی رسی کے اندر الجھ جائے، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے۔

ایسے جانور کو کھانا حرام ہے۔

”موقوذة“ وہ جانور ہے جس کو غیر دھار دار بھاری چیز سے مارا جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یہ وہ جانور ہے جس کو لکڑی سے مارا جائے یہاں تک کہ اس کو کوٹ دیا جائے اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ جانور کو لکڑیوں سے مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ جانور مر جاتا تو اس کو کھا لیتے۔

صحیح میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں ”معراض“ (۱) کو شکار کی طرف پھینکتا ہوں اور شکار حاصل کر لیتا ہوں۔

(۱) ”معراض“ بکسر المیم، وہ تیر جو بغیر پر اور نصل کے ہو، جو چوڑائی میں چلتا ہے اور چوڑائی میں جا کر جانور کو لگتا ہے، دھار کی طرف سے نہیں لگتا۔ لسان العرب، لابن منظور، ج ۹، ص ۴۲، تاج العروس، ج ۵، ص ۵۰، پر ”معراض“ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دو لکڑیوں سے بنتا ہے جس کے دونوں کنارے باریک ہوتے ہیں اور درمیان سے موٹا ہوتا ہے جیسے روٹی دھننے کی لکڑی ہوتی ہے۔ جب شکاری اس کو پھینکتا ہے تو سیدھا جاتا ہے، البتہ جانور کو چوڑائی کی طرف سے لگتا ہے، کنارے سے نہیں لگتا۔ لیکن اگر جانور قریب ہو تو پھر ”پھل“ کی طرف سے لگ کر اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اسی کے بارے میں سوال ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ”معراض“ سے شکار کرو اور وہ معراض اس جانور کو چیر دے تو اس جانور کو کھاؤ۔ اور اگر وہ ”معراض“ اس جانور کو چوڑائی میں لگے تو وہ جانور ”وقیذ“ (کوٹا ہوا) ہے، لہذا اس کو مت کھاؤ۔ (۱)

لہذا اس حدیث میں دونوں جانوروں کے درمیان تفریق کر دی کہ جس جانور کو تیر کا دھار دار حصّہ لگے، اس جانور کو جلال قرار دیا اور جس جانور کو تیر چوڑائی میں لگے اس کو ”وقیذ“ کہہ کر حرام قرار دیدیا۔ اور یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔

”متردّیہ“ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کسی اونچی جگہ سے گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے، ایسا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ”متردّیہ“ وہ جانور ہے جو پہاڑ سے گر کر مر جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”متردّیہ“ وہ جانور ہے جو کنویں میں گر کر مر جائے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”متردّیہ“ وہ جانور ہے جو پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو جائے یا کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے۔

”نطیحة“ وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر جائے، ایسا جانور حرام ہے، اگرچہ سینگ لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا

(۱) اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے مختلف ابواب کے تحت مختلف طرق سے نقل فرمایا ہے۔

ہو اور اس کا خون بہہ گیا ہو، چاہے ذبح کرنے کی جگہ سے خون بہا ہو۔

”وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ“ یعنی وہ جانور جس پر شیر، چھتے، بھیڑے یا کتے نے حملہ کیا ہو اور پھر اس میں سے کچھ حصہ کھالیا ہو، جس کے نتیجے میں وہ جانور مر چکا ہو، ایسا جانور حرام ہے، اگرچہ ان درندوں کے حملہ کرنے کے نتیجے میں اس جانور کا خون بہہ گیا ہو، چاہے اس جانور کے حلق سے خون بہا ہو، لیکن اس کے باوجود فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں درندے جس بکری، اونٹ اور گائے کو شکار کر کے کھا کر چھوڑ دیتے تھے، لوگ درندے کے بچے ہوئے شکار کو کھا لیتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے اس کو حرام قرار دیدیا۔

”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ اس کا تعلق ما قبل سے ہے یعنی جن پانچ جانوروں کا بیان اوپر ہوا، اگر ان میں سے کسی جانور کی شکار کا سبب تو ثابت ہو چکا ہو، لیکن ابھی اس کے اندر روح باقی ہو اور اس کی وجہ سے ذبح شرعی کے ذریعہ اس کا تدارک ممکن ہو، تو ذبح شرعی کے بعد وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طلحہ ”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:

إِلَّا مَا ذَبَحْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَفِيهِ رُوحٌ فَكُلُوهُ

فَهُوَ ذَكِيٌّ۔

یعنی مندرجہ بالا پانچ جانوروں کو روح موجود ہونے کی حالت میں ذبح کر دو۔

تو اس کو کھالو، کیونکہ وہ ”ذکی اور پاک ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری اور حضرت سدی رحمہم اللہ سے بھی اس کی یہی تفسیر منقول ہے۔

بہر حال! قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جانور صرف اس وقت حلال ہوتا ہے جب ”ذکاۃ شرعی“ کے ذریعہ اس کی روح نکالی گئی ہو۔ لہذا صرف کسی جانور کا گلا گھونٹ دینے سے یا کسی جانور کو وزنی چیز کے ذریعہ کوٹ دینے سے یا کسی اور طریقے سے اس جانور کا خون بہا دینے سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو۔ یا جس جانور کو کسی درندے نے شکار کیا ہو، بعض اوقات اس جانور کے ذبح کرنے کی جگہ سے خون بہہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے ضراحتہ دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ محض ذبح کی جگہ سے خون بہہ جانے کی وجہ سے جانور حلال نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے جانور کا خون بہانا ضروری ہے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ”تذکیہ شرعی“ کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

ب۔ ذبح کے وقت ”بسم اللہ“ پڑھنا

جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ ”ذکاۃ شرعی“ کے لئے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، لہذا اگر ذبح کرنے والا قصداً ”بسم اللہ“ چھوڑ دے تو امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ نسیاناً

”بسم اللہ“ چھوڑ دے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ذکاۃ شرعی معتبر ہوگی اور وہ جانور حلال ہوگا، اور ان فقہاء کے نزدیک ذبیحہ اور صید کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک صرف ذکاۃ اختیاری میں نسیان معاف ہے، لیکن شکار کے جانور میں اگر شکار کرنے والے نے تیر چلاتے وقت یا شکاری کتا چھوڑتے وقت ”بسم اللہ“ نہیں پڑھی تو اس جانور کی ”ذکاۃ شرعی“ نہیں ہوئی، چاہے اس نے قصداً بسم اللہ چھوڑی ہو یا نسیاناً چھوڑی ہو۔ (۱)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول کے مطابق ذبح کے وقت ”بسم اللہ“ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ (۲) لہذا ان کے نزدیک ”ذبیحہ“ حلال ہے اگرچہ قصداً بسم اللہ چھوڑ دی ہو۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ”کتاب الأم“ کی مراجعت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قصداً ”بسم اللہ“ چھوڑنے کے باوجود جانور کے حلال ہونے پر کوئی صراحت نہیں ہے، البتہ اس کی صراحت موجود ہے کہ نسیاناً بسم اللہ چھوڑنے پر جانور حلال ہو جائے گا۔ چنانچہ ”کتاب الأم“ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:

وإذا ارسل الرجل المسلم كلبه أو طائره
المعلمين أحببت له أن يسمي، فإن لم يسم

(۱) مسلک حنفی کے لئے دیکھئے: بدائع الصنائع، ج ۵، ص ۳۶۔ مسلک مالکی کے لئے دیکھئے: الذخیرہ للقرانی، ج ۴، ص ۱۳۳، الصاوی علی الدروری، ج ۲، ص ۴۷۱۔ حنبلی مسلک کے لئے دیکھئے: المغنی لابن قدامة، ج ۱۱، ص ۴۔

(۲) قلیدی وعیسرة، ج ۴، ص ۲۳۵۔

ناسیاء، فقتل أكل، لأنهما إذا كان قتلهما
 كالذکاة، فهو لونسى التسمية فى الذبیحة
 اكل، لأن المسلم یدبح على اسم عزوجل
 وان نسی - (۱)

اگر کوئی مسلمان اپنا سدھایا ہوا شکاری کتاب یا شکاری
 پرندہ شکار کے لئے چھوڑے تو اس کو چاہیے ”بسم اللہ“
 پڑھے، اور اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور وہ کتاب
 یا پرندہ شکاری جانور کو قتل کر دے تب بھی شکاری جانور
 کھالے، اس لئے کہ ان دونوں کا قتل کرنا ”ذکاة شرعی“
 کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ
 پڑھنا بھول جائے تو اس کو کھالے، اس لئے کہ
 مسلمان اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے اگرچہ بھول
 جائے۔

پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بھی تصریح فرمائی ہے کہ جو
 شخص ذبح کرتے وقت استخفافاً بسم اللہ پڑھنا چھوڑے تو اس کا ذبیحہ حلال
 نہیں ہوگا۔ اور مسلم قواعد کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ:

(۱) کتاب الام للشافعی، ج ۲، ص ۲۲۷، کتاب الصيد والذبائح،

باب تسمية الله عزوجل عند ارسال ما یصطاد۔

أن المسلم إذا نسي اسم الله تعالى أكلت
ذبيحته وإن تركه استخفافاً لم تؤكل
ذبيحته - (۱)

مسلمان اگر بھول کر بسم اللہ چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ
کھایا جائے گا اور اگر استخفافاً چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ
نہیں کھایا جائے گا۔

بعض علماء نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مندرجہ بالا مسئلے پر
تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ چنانچہ ”تفسیر مظہری“ میں ”شرح المقدمة المالکیة“
سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے:

وكل هذا في غير المتهاون وأما المتهاون
فلا خلاف أنها لا تؤكل ذبيحته تحريماً،
قاله ابن الحارث والبشير والمتهاون هو
الذي يتكرر منه ذلك كثيراً والله اعلم (۲)
”بسم اللہ“ پڑھنے اور چھوڑنے کی یہ تفصیل اس شخص
کے بارے میں ہے جو ”بسم اللہ“ پڑھنے کو حقیر نہ سمجھتا
ہو، لیکن جو شخص حقیر سمجھتا ہو تو اس کے ذبیحہ کے حرام

(۱) کتاب الام، ج ۲، ص ۱۳۱، باب ذبائح أهل الكتاب۔

(۲) تفسیر مظہری، ج ۳، ص ۳۱۸۔

ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ابن الحارثؒ اور بشیرؒ نے یہی فرمایا ہے اور ”متہاون“ وہ شخص ہے جو اکثر و بیشتر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہو۔ واللہ اعلم۔

لہذا مندرجہ بالا عبارت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصداً ”بسم اللہ“ چھوڑنے کے باوجود جانور کا حلال ہونا علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی اگر کوئی شخص تھاوناً اور استخفافاً بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے، اور اس کی عادت بنالے تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک حلت کا حکم صرف اس صورت کے ساتھ محدود ہے جب ذبح کرنے والا اتفاقاً ایک دو مرتبہ استخفاف اور تھاون کے بغیر ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول جائے، اور یہ صورت بھی کراہت سے خالی نہیں، اس لئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمادیا کہ:

أحببت له أن يسمي -

چنانچہ فقہاء شافعیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عمداً ”بسم اللہ“ چھوڑنا مکروہ ہے، اس کی وجہ سے ”بسم اللہ“ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ (۱)
اس سے ظاہر ہوا کہ عمداً ”بسم اللہ“ چھوڑنے سے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک جانور حرام ہو جائے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام ہے بشرطیکہ استخفاف اور تھاون کی وجہ سے ”بسم اللہ“

چھوڑی ہو اور بسم اللہ چھوڑنا ذبح کرنے والے کی عادت ہو۔ اور جس جانور کی حرمت پر دوسرے فقہاء کا اتفاق ہے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر حرام ہونے کا حکم نہیں لگاتے لیکن ان کے نزدیک بھی وہ جانور کراہت سے خالی نہیں، اور یہ رخصت بھی ایسی ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص سے اس کی تقویت نہیں ہوتی اور آیات اور احادیث ”تسمیہ“ کو ذکاۃ شرعی کے ارکان میں سے ایک رکن ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ

لَفِسْقٌ - (۱)

جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ
اور ایسا کرنا گناہ ہے۔

متروک التسمیہ کے حرام ہونے پر کوئی عبارت اس آیت سے زیادہ صریح اور واضح ہو سکتی ہے، اس آیت میں کوئی اجمال اور خفا نہیں ہے، بلکہ اس میں صراحتاً ”نہی“ موجود ہے اور ”نہی“ تحریم کا تقاضہ کرتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف ”نہی“ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ایک جملہ ”وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ“ بھی آیا ہے جس کے بعد تمام شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے جو ”تسمیہ“ کے ذکاۃ شرعی کے ارکان میں سے ایک رکن ہونے پر دلالت کر رہی ہے، بلکہ بہت سی آیات

اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض آیات مندرجہ ذیل ہیں:

﴿۱﴾ یَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ - (۱)

﴿۲﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ (۲)

﴿۳﴾ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ (۳)
﴿۴﴾ وَأَنْعَامٌ لِّأَيِّدِكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِفْرًا ۗ عَلَيْهِ - (۴)

﴿۵﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - (۵)

(۱) سورۃ المائدہ، آیت ۴ -

(۲) سورۃ الحج، آیت ۳۴ -

(۳) سورۃ الحج، آیت ۳۶ -

(۴) سورۃ الانعام، آیت ۱۳۸ -

(۵) سورۃ الانعام، آیت ۱۱۹ -

مندرجہ بالا تمام آیات مختلف اسالیب سے اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ان اہم عناصر میں سے ہے جس کے نتیجے میں مسلمان کے لئے حیوان کا گوشت حلال ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس بات کو صرف ایک دو آیتوں کے اندر بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر اس موقع پر جہاں ذبیحہ کا ذکر ہو، یا شکار کا ذکر ہو، یا قربانی کا ذکر ہو، اس رکن کو ایک مستقل صفت کے ذریعہ بیان فرمایا، اور بسم اللہ چھوڑنے والے پر شدت سے نکیر فرمائی ہے اور اس عمل کو ”افتراء علی اللہ“ قرار دیا۔ اور ان لوگوں پر نکیر فرمائی جو اللہ کا نام لینے کے باوجود ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ”زکاة شرعی“ کی بڑی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔

اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ”تسمیہ“ کو ان ارکان میں سے قرار دیا ہے جن کا ذبیحہ جانور اور شکار کے حلال ہونے کے لئے پایا جانا ضروری ہے، وہ احادیث مندرجہ ذیل ہیں:

﴿ ۱ ﴾ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ

قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ما أنهر الدم و ذکر اسم اللہ فکل (۱)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب التسمیة علی الذبیحة، حدیث

نمبر ۵۳۹۸، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز خون بہادے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھالو۔

﴿۲﴾ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : أنه لقی زید بن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحي، فقدّمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرة فأبى أن يأکل منها، ثم قال زید: انی لست آکل مما بحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ (۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نزول وحی سے پہلے زید بن عمرو بن نفیل سے ”أسفل بلدح“ کے مقام پر ملاقات کی، تو حضور

(۱) صحیح بخاری، مناقب الانصار، باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل، حدیث نمبر ۳۸۲۶۔

کتاب الذبائح، حدیث نمبر ۵۳۹۹۔

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا
 (اور کچھ گوشت لا کر سامنے رکھا گیا) حضور اقدس صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار فرمایا،
 حضرت زید نے فرمایا کہ میں اس جانور کو نہیں کھاتا
 ہوں جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو اور
 میں صرف اس جانور کو کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا
 گیا ہو۔

یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ”متروک التسمیہ“ کا حرام ہونا
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حصہ ہے۔

﴿۳﴾ عن جنذب بن سفیان البجلي رضی
 اللہ عنہ قال: ضحينا مع رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم أضحاة ذات یوم فأذ الناس
 قد ذبحوا ضحایا یا ہم قبل الصلاة، فلما
 انصرف رأهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: من ذبح
 قبل الصلاة فليذبح مكا نها أخرى ومن
 كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم

اللہ (۱)

حضرت جناب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، بعض لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور ذبح کر لئے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، تو آپ ﷺ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔

﴿۴﴾ عن عباية بن رفاعة عن جده أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم و

ذكر اسم الله فكل - (۲)

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب قول النبی صلی اللہ علیہ

وسلم: فلیذبح علی اسم اللہ، حدیث نمبر ۵۵۰۰۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب الخ،

حدیث نمبر ۵۵۰۳۔

حضرت عبایہ بن رفاعہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھالو۔

﴿۵﴾ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ
 أنه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 أسئلة فأجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم عن سؤاله فی الصيد فقال: فما
 صدت بقوسک فاذا ذکر اسم اللہ وکل وما
 صدت بکلبک المعلم فاذا ذکر اسم اللہ
 وکل (۱)

حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے بارے میں ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: تم اپنے کمان سے جو جانور شکار کرو، تو شکار کرتے وقت اللہ کا نام لو اور اس کو کھالو، اسی طرح

جو جانور تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرو تو اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو اور اس کو کھالو۔

﴿۶﴾ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا أرسلت کلابک المعلّمة و ذکرک اسم اللہ فکل ممّا أمسکن علیک۔ (۱)

حضرت عدی حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو شکار کی طرف چھوڑا اور اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تو اس جانور کو کھالو جو کتے تمہارے لئے چھوڑ دیں۔ (اور خود اس میں سے نہ کھائے)

﴿۷﴾ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ ﷺ! إني أرسل كلبی أجد معه كلباً آخر لا أدری أيهما أخذه؟ فقال: لاتا كل فأنما سميت علي

کلبک ولم تسم علی غیرہ۔ (۱)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں شکار کے لئے اپنا کتا چھوڑتا ہوں، لیکن میں اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کتے نے جانور شکار کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کو مت کھاؤ، کیونکہ تمہارے کتے پر تو بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔

﴿۸﴾ وعنہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً: وإذا خالط
کلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن
فقتلن فلانناكل۔ (۲)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہارے کتے کے ساتھ شکار کرنے

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب اذا وجد مع الصيد کلباً آخر، حدیث نمبر ۵۴۸۶۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب الصيد اذا غاب عنه یومین او ثلاثه آیام، حدیث

میں دوسرے ایسے کتے شامل ہو جائیں جن کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ سب مل کر جانور کو پکڑ کر قتل کر دیں تو تم اس جانور کو مت کھاؤ۔

﴿۹﴾ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنْ أَحْدَنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سَكِينٌ، أَيْذِبح بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ: أَمْرُ الدَّمِ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (۱)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے: وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں ایک شخص شکار کا جانور پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے پاس ذبح کرنے کے لئے چھری نہیں ہوتی، کیا وہ کاٹچ اور لکڑی کی چھال سے ذبح کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز سے چاہو خون بہادو اور اس پر اللہ عزوجل کا نام لو۔

(۱) ابوداؤد، باب الذبیحة بالمروة، حدیث نمبر ۲۸۲۳-نسائی، ابانۃ الذبح بالعود، حدیث نمبر ۴۳۰۱-یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔

بہر حال! قرآن و حدیث کی مندرجہ بالا تمام نصوص ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے پر انتہائی تاکید اور کامل توجہ دینے پر دلالت کر رہی ہیں، حالانکہ ان نصوص میں سے صرف ایک نص بھی یہ بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا ذبح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن شارع نے اس بات کو صرف ایک مرتبہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مختلف مناسب مقامات پر مختلف اسالیب سے بار بار مکرر اس بات کو بیان فرمایا، یہ صرف اس کی انتہائی اہمیت بیان کرنے کے لئے کیا، اور یہ بتانے کے لئے کیا کہ حیوان کی ذکاۃ شرعی کے حصول کے لئے بسم اللہ پڑھنا قطعی شرط ہے۔

البتہ صرف ایک صورت و جوہ تسمیہ سے مستثنیٰ ہے، وہ حالت نسیان کی صورت ہے، چنانچہ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نسیاناً "بسم اللہ" چھوڑنا صحت ذکاۃ شرعی کے لئے مانع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

میں صرف "عامد" کو خطاب کیا گیا ہے، ناسی کو نہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اس ارشاد کے آخر میں فرمایا:

وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ (یہ عمل گناہ ہے) اور "فسق" کی صفت

"ناسی" کی نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ ناسی حالت

نسیان میں "تسمیہ" کا مکلف نہیں ہے۔ امام اوزاعی

رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ:

عن عطاء بن ابی رباح عن عبید بن عمیر
عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال:
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
تجاوز اللہ عن أمتی الخطأ والنسیان وما
استکر ہوا علیہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
میری امت سے خطا، بھول چوک اور جس کام پر
انہیں مجبور کیا جائے وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف اور
درگزر فرمادیئے ہیں۔

لہذا اس حدیث کے لحاظ سے جب ”ناسی“ مکلف نہیں
ہے۔ تو اس کے ذبح کئے ہوئے جانور کی ”ذکاة“
مامور بہ طریقے پر ادا ہو جائے گی، لہذا اس کا تسمیہ کو
چھوڑ دینا ذکاة شرعی کو فاسد نہیں کرے گا، اور ذکاة
شرعی کے فوت ہونے کی بناء پر اس کی جگہ پر دوسری
مرتبہ ذکاة شرعی لازم کرنا بھی جائز نہیں، اس لئے کہ
ذبح کرتے وقت ”تسمیہ“ بھول جانے کا حکم نماز میں

”تکبیر“ بھول جانے یا طہارت وغیرہ بھول جانے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تکبیر اور طہارت کا حکم یہ ہے کہ بھول جانے کے بعد جب یاد آ جائیں تو دوسری مرتبہ فرض آخر کے طور پر ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن ذبح میں فرض آخر کے طور پر لازم کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ ذکاۃ کا محل ہی فوت ہو چکا ہے۔ (۱)

”نسیان“ والے مسئلے پر اس روایت سے بھی دلالت ہوتی ہے جو امام دارقطنی اور امام بیہقی نے روایت کی ہے، وہ یہ کہ:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم یکفیه اسمہ فان نسی ان یرسم حین یذبح فلیسم ولیذکر اسم اللہ ثم لیأکل۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے اللہ کا نام ہی کافی ہے، پس اگر ذبح

(۱) احکام القرآن للجصاص ج ۳، ص ۷۷-۸، طبع لاہور۔

(۲) نصب الرایہ للزیلعی، ج ۲، ص ۲۶۱۔

کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو اس کو چاہئے کہ بسم اللہ پڑھ لے اور اللہ کا نام لے اور پھر اس کو کھائے۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو اپنی کتاب ”التلخیص الحبیر“ میں نقل کرنے کے بعد فرمایا:

وقد صححه ابن السکن۔

یعنی ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ بعض محدثین نے اس روایت کی سند کو ”معقل بن عبد اللہ اور محمد بن یزید بن سان کی وجہ سے ”مغلل“ قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ”معقل بن عبد اللہ صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں اور محمد بن یزید بن سان کو ابن حبان، نسائی اور مسلم نے ثقہ قرار دیا ہے۔ (۱) اور عبد بن حمید نے راشد بن سعد سے مرسل اور یہ روایت نقل کی ہے:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ذبيحة المسلم حلال سئى أولم يسم مالم يتعمد

والصيد كذلك۔ (۲)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ

مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے اس نے بسم اللہ

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: اعلاء السنن، ج ۱۷، ص ۶۸۔

(۲) الدر المنثور للسيوطی، ج ۳، ص ۴۲۔

پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو جب تک اس نے بسم اللہ نہ
پڑھنے کا قصد نہ کیا ہو اور مسلمان کے شکار کا بھی یہی
حکم ہے۔

یہ تمام مرفوع روایات اس روایت کی تائید کرتی ہیں جو امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ”موقوف“ روایت
کو تعلقاً ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ ”من نسی فلا بأس“ (۱)
یعنی جو شخص تسمیہ بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس روایت
کو امام دارقطنی اور سعید بن منصور وغیرہ نے ”موصولاً“ ذکر کیا ہے اور حافظ
ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ”وسندہ صحیح“ (۲)

بہر حال! یہ بے شمار نصوص جو ذبح کے وقت ”تسمیہ“ کے وجوب پر
دلالت کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں جو استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
نے پیش کیا ہے، وہ ثبوت اور دلالت میں ان نصوص کے قریب بھی نہیں پہنچ
سکتا۔

مثلاً بعض شوافع نے قرآن کریم کی اس آیت **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** سے
استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”تذکیہ“ کو مطلق
رکھا ہے، اس کو ”تسمیہ“ کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”تسمیہ“

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب التسمیة علی الذبیحة ومن

ترك متعمداً۔

(۲) صحیح بخاری، ج ۹، ص ۶۲۳۔

واجب نہیں۔ اس استدلال کا جواب واضح ہے، وہ یہ کہ شریعت میں ”تذکیہ“ کا ایک متعین مفہوم ہے اور سابق میں ہم نے جو نصوص ذکر کی ہیں، وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ”تذکیہ شرعی“ تسمیہ کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا، لہذا ”تسمیہ“ تذکیہ شرعی کے مفہوم کے اندر ہی داخل ہے جیسا کہ ذبح کے مفہوم میں رگوں کا کاٹنا داخل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ”تذکیہ“ کو بطور ”مفہوم کلی“ کے ذکر فرمایا ہے جو ان تمام شرعی ارکان کو شامل ہے جو دوسری نصوص سے ثابت ہیں، اور ان ارکان میں سے ایک رکن ”تسمیہ“ بھی ہے، لہذا اللہ جل شانہ کے اس قول ”إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ“ میں ”تسمیہ“ خود ملحوظ اور داخل ہے۔

اس طرح بعض شوافع نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِنْ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرَ اسْمَ
 اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ: سَمَّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكَلَوْه
 قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدَ بِالْكَفْرِ - (۱)

یعنی ایک قوم کے لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم سے کہا کہ بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب ذبیحۃ الأعراب، حدیث نمبر ۵۵۰۷۔

ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا انہوں نے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کا زمانہ کفر سے قریب تھا۔

لیکن اس حدیث سے اس جانور کی حلت پر استدلال مکمل نہیں ہوتا جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کو ذبح کرنے والے نے عداً ”تسمیہ“ کو چھوڑا ہے، زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کے فعل کو وجہ صحیح پر محمول کیا جائے گا، لہذا اگر کوئی مسلمان گوشت یا کھانا لے کر آئے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ مشروع طریقہ پر ذبح شدہ حلال جانور کا گوشت ہوگا اور اس کو ظاہری حالت پر محمول کیا جائے گا، اور ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس لئے ایک مسلمان کے لائے ہوئے گوشت کے بارے میں ذبح کے طریقے پر تحقیق اور تفتیش کرنا واجب نہیں جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ اس نے غیر مشروع طریقے پر ذبح کیا ہے۔ اور جس قوم کے گوشت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا وہ مسلمان ہی تھے، اگرچہ ان کا زمانہ کفر سے قریب تھا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل کو ظاہر پر محمول کرنے کا حکم دیا اور ظاہر یہی تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں

نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہوگا۔

اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس جانور کو ذبح کرنے والے شخص نے ذبح کرتے وقت عمداً بسم اللہ چھوڑی ہے تب بھی وہ جانور حلال ہوگا، یہ بدیہی بات ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس صورت کے بارے میں تھا جب ایک مسلمان کو ذبح کرنے والے کے بارے میں یہ یقین نہیں تھا کہ آیا اس نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں؟ یہی وہ صورت ہے جو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اس گوشت کے بارے میں پیش آتی ہے جو گوشت مسلمانوں کے بازاروں میں فروخت ہوتا ہے، اس لئے کہ جو لوگ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبح کرتے وقت ہم مشاہدہ نہیں کرتے کہ آیا انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں؟ لہذا یہ حدیث اس صورت کا حکم ظاہر کرتی ہے، لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ ذابح نے قصداً اور عمداً بسم اللہ کو ترک کیا ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، لہذا اس دوسری صورت کو پہلی صورت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

بعض شوافع نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مراسیل میں ”الصلت السدوسی“ سے مرسلًا نقل کیا ہے کہ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم
يذكر، ان ذكر لم يذكر اسم الله - (۱)
یعنی مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے اللہ کا نام لیا ہو یا
نہ لیا ہو۔

یہ حدیث ”الصلت السدوسی“ سے مروی ہے، اور یہ مجہول
راوی ہیں، جیسا کہ ابن حزم اور ابن قطان نے فرمایا کہ اس ایک حدیث کے
علاوہ کسی اور حدیث میں یہ معروف نہیں اور ثور بن یزید کے علاوہ کسی اور
نے ان سے روایت نہیں کی ہے۔ (۲) لہذا اس حدیث کی سند ضعف سے
خالی نہیں۔ اور اگر یہ حدیث صحیح طریق سے ثابت ہو تو یہ ممکن ہے کہ اس
حدیث کو نسیاناً ترک تسمیہ پر محمول کر لیا جائے تاکہ اس روایت کی ان
احادیث کثیرہ کے ساتھ تطبیق ہو جائے جو وجوب ”تسمیہ“ پر دلالت کر رہی
ہیں اور جس جانور پر عمداً تسمیہ چھوڑ دیا جائے ان کے حرام ہونے پر دلالت
کر رہی ہیں۔

بہر حال! مندرجہ بالا دلائل قویہ کی وجہ سے بعض علماء شافعیہ نے اس
باب میں جمہور فقہاء کے قول کو راجح قرار دیا ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں:

(۱) مراسیل ابی داؤد، ص ۴۱۔

(۲) دیکھئے: نصب الراية للزيلعي۔

وقوَاهُ الغزالی فی الاحیاء محتجاً بأن ظاهر
 الآیة الايجاب مطلقاً وكذلك الأحياء،
 وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل
 التعميم و تحتمل الاختصاص بالناسی،
 فكان حملہ علیہ أولى لتجرى الأدلة كلها
 على ظاهرها ويعذر الناسی دون
 العامد (۱)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں جمہور
 کے قول کو قوی قرار دیا ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ
 آیت کے ظاہر سے مطلقاً ایجاب معلوم ہو رہا ہے اور
 احادیث سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور جو احادیث
 رخصت پر دلالت کر رہی ہیں، ان کے اندر تعمیم کا بھی
 احتمال ہے اور تخصیص بالناسی کا بھی احتمال ہے، البتہ
 ”ناسی“ پر حمل کرنا اولیٰ ہے، تاکہ تمام دلائل اپنے
 ظاہر پر رہیں، اور اس لئے بھی کہ ”ناسی“ کو معذور
 سمجھا جاتا ہے، ”عامد“ کو معذور نہیں سمجھا جاتا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت نقل

کرنے کے بعد اس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی اور یہ عبارت حافظؒ نے ”باب ذبیحة الاعراب“ کے تحت نقل فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس صنیع سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی ذبح کے وقت ”تسمیہ“ کے بطور شرط واجب ہونے کے بارے میں جمہور فقہاء کے قول کو ترجیح دینے کی طرف مائل ہیں، اس لئے کہ حافظؒ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بحث کے بالکل آخر میں ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جس سے ”متروک التسمیہ“ کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔ (۱)

ج۔ ذابح کی شرائط

”تذکیہ شرعی“ کے حصول کی اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو کتابی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ عاقل بالغ ہو، لہذا اہل کتاب کے علاوہ کفار اور مشرکین کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اس شرط پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، میرے علم کے مطابق فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف نہیں ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے اس مسئلہ پر اجماع نقل کیا ہے۔ (۲) اور کفار کے ذبیحہ کے حرام ہونے کا مطلب یہ نکلا کہ جو ”کافر“ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان کے ذبح کے طریقے پر ذبح کرے تو بھی اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ امام بھٹا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) فتح الباری، ج ۹، ص ۶۳۳، باب نمبر ۲۱۔

(۲) دیکھئے: سعدی ابو جیب کی کتاب ”موسوعۃ الاجماع“ ج ۲، ص ۹۱۲، ۹۱۸۔

وقد علمنا أن المشركين وإن سموا على

ذبا نحلهم لم تؤكل - (۱)

ذبح کی شرائط سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں تب بھی وہ جانور نہیں کھایا جائے گا۔

بعض معاصر علماء نے اس مسئلہ میں شذوذ اختیار کرتے ہوئے صرف اہل عرب کے بت پرستوں کے ذبیحہ پر حرمت کو منحصر کر دیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے کفار کے ذبیحہ کو مباح قرار دیا ہے، چاہے وہ دوسرے بت پرست ہوں یا دہریے ہوں یا چاہے آتش پرست ہوں۔ بعض معاصرین کا یہ قول غلط ہے، قرآن و حدیث اور اقوال سلف سے اس کی کوئی مناسبت نہیں۔ دراصل ان کو اشتباہ یہاں سے پیش آیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث میں صریح نص ایسی نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کفار کا ذبیحہ حرام ہے، اور اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، لہذا کسی چیز کی حرمت کے لئے نص کا ہونا ضروری ہے۔ (۲)

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حیوانات کے اندر اصل حرمت ہے اور وہ جانور اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک شریعت اس کے حلال ہونے کا حکم نہ لگا دے، اس کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث

(۱) احکام القرآن للجصاص، ج ۳، ص ۶۔

(۲) فصل الخطاب فی اباحتہ ذبائح اهل الكتاب، للشيخ

عبدالله بن زید آل محمود، ص ۱۹، ۲۲۔

ہے جو ما قبل میں گزری، جس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ:

قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم!
 انى ارسل كلبى اجد معه كلباً آخر
 لا ادرى ايهما اخذه، فقال: لا تاكل فانما
 سميت على كلبك ولم تسم على
 غيره (۱)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنا کتا شکار کے لئے چھوڑتا ہوں، اب دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ شکار کس کتے نے کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شکار کو مت کھاؤ، اس لئے کہ تم نے صرف اپنے کتے پر ”بسم اللہ“ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔

یہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے کہ جب ”ذکاة شرعی“ کے حصول میں شک پیدا ہو جائے اور دونوں احتمال برابر ہوں تو اس جانور کا کھانا

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب اذا وجد مع الصيد کلبا آخر،

حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”حیوانات“ کے اندر اصل ”حرمت“ ہے، کیونکہ اگر اصل ”اباحت“ ہوتی تو شک کی حالت میں وہ حیوان حرام نہ ہوتا۔

دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے صرف اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلت کی تخصیص فرمادی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ (۱)

ان لوگوں کا طعام تمہارے لئے حلال ہے جن کو کتاب

دی گئی ہے۔

لہذا اگر سب کا طعام مسلمانوں کے لئے حلال ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ذکر کی تخصیص نہ فرماتے۔

بعض معاصرین نے مندرجہ بالا استدلال کو ”استدلال بمفہوم اللقب“ قرار دے کر رد کیا ہے۔ یہ بھی درست نہیں، بلکہ یہ استدلال مسکوت عنہ چیز میں اصل کی طرف رجوع کرنے کے اصول سے ہے اور ”حیوانات“ میں اصل حرمت ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا۔

بہر حال! صحیح بات جس پر ہر زمانے میں امت کا اجماع رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لئے ”ذبیحہ“ اس وقت تک حلال نہیں جب تک اس کو ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب نہ ہو، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

البتہ بعض اقوال شاذہ میں ”مجوس“ کو اہل کتاب میں سے شمار کیا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سنوا بہم سُنَّةَ اَہْلِ الْکِتَابِ۔ (۱)

مجوس کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ”مجوس“ سے جزیہ وصول کرنے کے بارے میں ہے، اور ”جزیہ“ کے بارے میں یہ حدیث پیش کر کے اس سے استدلال کیا گیا تھا، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ”مجوس“ سے جزیہ وصول کرنے کے بارے میں تردد تھا تو اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجوس سے جزیہ وصول فرمایا: یہ واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”موطأ“ میں اس طرح نقل کیا ہے:

عن محمد بن علی أن عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ ذکر المجوس فقال:

مالک کیف أصنع فی أمرهم؟ فقال عبد

الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: سنوا بہم

سنۃ اہل الكتاب - (۱)

حضرت محمد بن علی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجوس کا ذکر فرمایا اور یہ سوال کیا کہ ان کے بارے میں کیا معاملہ کروں؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرو۔

جمہور فقہاء نے اس بات پر کہ ”اہل کتاب“ کا لقب صرف ”یہود و نصاریٰ“ میں منحصر ہے، اس آیت سے استدلال کیا ہے:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى
طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ
لَغَافِلِينَ ۝ (۲)

دوسری بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مجوس“ کو اہل کتاب میں سے شمار نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جزیہ وصول کرنے میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا

(۱) مؤطا امام مالک، کتاب الزکاة، باب جزیۃ اهل الكتاب۔

(۲) سورة الانعام، آیت ۱۵۶۔

کہ مجوس اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، البتہ ان کا جزیہ قبول کرنے کے معاملہ میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ (جس طرح اہل کتاب سے جزیہ وصول کر سکتے ہیں، اسی طرح مجوس سے بھی جزیہ وصول کر سکتے ہیں)

اہل کتاب کے ذبیحہ کا مسئلہ

اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال ہے اور یہ اہل تذکیہ میں سے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (۱)

یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کا طعام تمہارے لئے حلال ہے۔ اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں ”طعام“ سے مراد ”ذبیحہ جانور“ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ -

قال ابن عباس وأبو أمامة و مجاهد، و

سعید بن جبیر و عكرمة و عطاء والحسن

ومكحول و ابراهيم النخعي و السدي و

مقاتل بن حیان: یعنی ذبائهم، وهذا أمر
 مجمع عليه بين العلماء أن ذبائهم حلال
 للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح
 لغير الله ولا يذكرون على ذبائهم الا
 اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزو
 عنه تعالى و تقدس - (۱)

اس آیت ”وَطَعَامُ الَّذِينَ الْخ“ کے بارے میں
 حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو امامۃ، حضرت
 مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت عکرمۃ، حضرت
 عطاء، حضرت حسن، حضرت مکحول، حضرت ابراہیم نخعی،
 حضرت سدی، حضرت مقاتل بن حیان رحمہم اللہ تعالیٰ
 کا کہنا یہ ہے کہ ”طعام“ سے مراد اہل کتاب کے
 ذبح کردہ جانور ہیں، اور یہ بات علماء کے درمیان
 متفق علیہ ہے کہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال
 ہے، اس لئے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام
 پر ذبح کرنا حرام ہے اور وہ لوگ اپنے ذبیحہ پر اللہ
 کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ

کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہیں (یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں)۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا اہل کتاب کے ذبیحہ میں بھی ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو شرائط مسلمان کے ذبیحہ میں پائی جانی ضروری ہیں۔ مثلاً یہ کہ ذبح کے وقت جانور کی رگیں کاٹنا اور آلہ ذبح کا تیز ہونا اور ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا؟ چونکہ بعض معاصرین کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ذبح کریں۔ اس لئے اس مسئلہ میں غور اور تعمق کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم اس مسئلے پر دو پہلو سے بحث کریں گے، ایک یہ کہ کیا اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جانور کو مشروع طریقے پر ذبح کریں؟ مثلاً یہ کہ تیز دھار دار آلے سے اس کی رگیں کاٹیں؟ دوسرے یہ کہ کیا ذبح کے وقت ان کے لئے ”بسم اللہ“ پڑھنا ضروری ہے؟

اہل کتاب کیلئے مشروع طریقے پر جانور ذبح کرنا

جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ ”کتابی“ کا ذبیحہ اس وقت حلال ہے جب جانور کو ذبح کرتے وقت تیز دھار دار آلے سے وہ تمام رگیں کاٹیں جن کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہی بات حق ہے اور ان

دلائل سے ثابت ہے جن کا انشاء اللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض معاصرین کا کہنا یہ ہے کہ ”کتابی“ کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے، چاہے اس نے جانور کو کسی بھی طرح سے قتل کیا ہو، کیونکہ کتابی کا ذبیحہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے (وَطَعَامُ الْبَدِينِ أَوْتُوا الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ) اور یہ حضرات قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا:

وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَفْتُلُ عُنُقَ
الدَّجَاجَةِ ثُمَّ يَطْبُخُهَا: هَلْ يُؤْكَلُ مَعَهُ أَوْ تُوْخَذُ
طَعَامًا مِنْهُ؟ وَهِيَ الْمَسْئَلَةُ الثَّامِنَةُ، فَقُلْتُ:
تُؤْكَلُ لِأَنَّهَا طَعَامُهُ وَطَعَامُ أَحْبَارِهِ وَرَهْبَانِهِ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ذِكَاةَ عُنُقِنَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى أَبَاحَ طَعَامَهُمْ مُطْلَقًا، وَكُلَّ مَا يَرُونَهُ فِي
دِينِهِمْ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَنَا فِي دِينِنَا. إِلَّا مَا كَذَّبَهُمُ
اللَّهُ سَبْحَانَهُ فِيهِ (۱)

قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نصرانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ مرغی کی گردن موڑ کر اس کو مار دیتا ہے، پھر اس کو پکاتا ہے، تو کیا اس کے

(۱) احکام القرآن، لابن عربی، ج ۲، ص ۵۵۲، مطبوعہ عیسیٰ البابی الحلبي۔

ساتھ کھایا جاسکتا ہے؟ یا اس نصرانی سے کھانا قبول کیا جاسکتا ہے؟ یہ آٹھواں مسئلہ ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ ہاں، اس کو کھایا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ مرغی اس کا کھانا اور اس کے علماء کا کھانا ہے، اگرچہ یہ طریقہ ہمارے نزدیک ذکاۃ شرعی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ”طعام“ ہمارے لئے مطلقاً مباح فرمایا ہے، لہذا جس چیز کو وہ اپنے دین کے مطابق حلال سمجھیں، وہ چیز ہمارے لئے ہمارے دین میں بھی حلال ہوگی، سوائے ان چیزوں کے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے۔

لیکن امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ بالا عجیب قول اس اصل کے بالکل متعارض ہے جو اصل انہوں نے اپنی اسی کتاب میں مندرجہ بالا قول سے صرف ایک صفحہ پہلے ذکر فرمائی ہے۔ جس کی عبارت یہ ہے:

فإن قيل: فما أكلوه - أي أهل الكتاب - على

غير وجه الذکاۃ كالخنق و حطم الرأس؟

فالجواب: أن هذه ميتة وهي حرام بالنص

وإن أكلوها فلا ناكل نحن كالخنزير فهو

حلال لهم و من طعامهم و هو حرام علينا

فهدہ مثله واللہ اعلم - (۱)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اہل کتاب جو جانور غیر ذکاۃ شرعی طریقے پر ذبح

کر کے کھاتے ہیں، مثلاً اس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا یا سر کچل کر مار دیا، ایسے جانور کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے نزدیک مردار ہے اور نص کے ذریعہ حرام ہے۔ اگر وہ اس جانور کو کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھائیں گے، جیسے خنزیر ان کے لئے حلال ہے اور ان کے طعام میں داخل ہے، لیکن ہمارے لئے حرام ہے۔ اس قسم کے ذبح کئے ہوئے جانور کا بھی یہی حکم ہے۔

لہذا علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ بالا دو عبارتوں میں صریح تعارض واقع ہو رہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو عبارتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو اس عبارت کو قبول کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے جو ثابت بالنص ہو اور امت کے تعامل سے اس کو تائید حاصل ہو۔ لہذا وہ فتویٰ شاذہ قبول نہیں کیا جائے گا جو مندرجہ ذیل دلائل قویہ کے مخالف ہے:

پہلی دلیل

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ۔ (۱)

اس آیت میں ”منخنقة“ اور ”موقوذة“ کو علی الاطلاق حرام قرار دیا ہے، لہذا اس آیت کے تحت ہر وہ جانور داخل ہے جس کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو اور جس کو کچل کر مارا گیا ہو۔ لہذا جو لوگ قرآن کریم کی اس آیت:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ”منخنوقة“ اور ”موقوذة“ جانور حلال ہے، ان کو چاہئے کہ وہ اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے خنزیر کو بھی حلال کہیں، کیونکہ خنزیر بھی اہل کتاب کے طعام میں داخل ہے، لہذا اگر مذکورہ آیت سے خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے پر استدلال کیا جائے گا تو اسی آیت سے ہی ”منخنقة“ اور ”موقوذة“ کی حرمت پر استدلال کیا جائے گا۔ اور دونوں میں کسی تفریق کی گنجائش نہیں۔ اور اگر مذکورہ آیت خنزیر کے گوشت کی ”طعام اہل کتاب“ سے تخصیص کر رہی ہے، تو یہی آیت ”منخنقة“ اور ”موقوذة“ کی بطریق اولیٰ تخصیص کرے گی، اس لئے کہ خنزیر ان کے دین میں حلال ہے اور ”منخنقة“ اور ”موقوذة“ ان کے بھی اصل مذہب میں حرام ہے، جیسا کہ انشاء اللہ عنقریب اسکا بیان آئے گا، لہذا اگر وہ طعام جو ان کے مذہب میں حلال ہے جیسے خنزیر، یہ ”طعام اہل کتاب“ سے مستثنیٰ ہے جو مسلمانوں کے لئے حلال ہیں، تو وہ طعام جو ان کے اصل مذہب میں بھی حرام ہیں، جیسے ”منخنقة“ اور ”موقوذة“ یہ تو بطریق اولیٰ ”طعام اہل کتاب“ سے مستثنیٰ ہوں گے۔

دوسری دلیل

۲۔ اصول فقہ اور فن لغت میں یہ بات موجود ہے کہ جب کسی اسم مشتق پر حکم وارد ہوتا ہے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم نے یہ کہا کہ ”اکرموا العلماء“ علماء کا اکرام کرو۔ اس میں اکرام کا حکم ”علماء“ پر وارد ہے جو اسم مشتق ہے، اور اس کا مادہ اشتقاق ”علم“ ہے، لہذا یہ ”علم“ اکرام کی علت ہے۔ یہ اصول بالکل واضح اور مسلم ہے۔ لہذا سورۃ مائدہ کی آیت میں حرمت کا حکم ”منخنقة“ اور ”موتوذة“ پر وارد ہوا ہے، تو حرمت کے حکم کی علت ”خنق“ اور ”وقذ“ ہوگی، لہذا جہاں کہیں ”خنق“ اور ”وقذ“ پایا جائے گا، وہاں پر حرمت کا حکم بھی آئے گا اور اس میں خالق اور واقد کی دیانت کا حرمت اور حلت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لہذا ”خنق“ اور ”وقذ“ کے نتیجے میں جانور حرام ہو جائے گا، چاہے ایسا کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔

تیسری دلیل

تیسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ

سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذبح کے معاملے میں اہل کتاب مسلمانوں کے برابر ہیں، اس معاملے میں دونوں کے درمیان کوئی

فرق نہیں۔ لیکن اس آیت سے اہل کتاب کی مسلمانوں پر فوقیت اور مزیت ثابت نہیں ہوتی حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا جو ذبیحہ حرام ہے وہ اہل کتاب کا حلال ہے۔ اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو قبول کرنے کے نتیجے میں اہل کتاب کو مسلمانوں پر اس بارے میں فوقیت حاصل ہو جائے گی کہ اہل کتاب جانور کو جس طریقے بھی ذبح کریں وہ حلال ہے اور اگر مسلمان جانور کو اسی طریقے پر ذبح کریں تو وہ جانور حرام ہے، ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ بداعتہ باطل ہے۔

چوتھی دلیل

چوتھی دلیل یہ ہے کہ امت اسلامیہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ ”ان الکفار کلہم ملة واحدة“ تمام کفار ایک ملت ہیں۔ اس اصول کا تقاضہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا حکم بھی دوسرے کفار کی طرح ہونا چاہئے، لہذا جس طرح دوسرے کفار کا ذبیحہ حرام ہے اسی طرح ان کا ذبیحہ بھی حرام ہونا چاہئے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ذبح اور نکاح ان دو معاملات میں اہل کتاب کو دوسرے تمام کفار سے ممتاز کر دیا ہے، اس لئے کہ ذبح اور نکاح کے احکام ان کے نزدیک بالکل اسلامی احکام کے مماثل ہیں، چنانچہ ذبح کے اندر وہ لوگ ان تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں جو اسلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں اور ذبح کے یہ احکام اب تک ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں، باوجودیکہ ان کے اندر بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں۔ ان کی مقدس کتابوں کی بعض عبارتیں

مندرجہ ذیل ہیں:

کتاب ”اللاویین“ میں جس کو ”کتاب الأخبار“ بھی کہا جاتا ہے۔
آیا ہے:

وأما شحم الميتة و شحم المفترسة

فيستعمل لكل عمل لكن أكلاً لا تأكلوه (۱)

مردار کی چربی اور پھاڑنے والے جانور کی چربی ہر کام
میں استعمال کی جاسکتی ہے، لیکن جہاں تک اس کے
کھانے کا تعلق ہے تو اس کو مت کھاؤ۔

کتاب ”الاستثناء“ کے اندر یہ عبارت درج ہے:

وأما ذبائحك فيسفلك دمها على مذبح

الرب الهك واللحم تأكله - احفظ واسمع

جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك

بها لكي يكون لك ولا ولدك من

بعدك خيرا إلى الأبد اذا عملت الصالح

والحق في عيني الرب الهك - (۲)

جہاں تک تمہارے ذبائح کا معاملہ ہے تو ان کا خون

(۱) لاویین، ج ۷، ص ۲۳ -

(۲) الاستثناء، ج ۱۲، ص ۲۸، ۲۷ -

اپنے رب کے نام پر بہا جو تیرا معبود ہے اور اس کا گوشت کھا۔ اس کو یاد کر لو اور یہ تمام کلمات جن کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کو سن لو، تاکہ تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے ہمیشہ کے لئے خیر ہو جائے۔

مندرجہ بالا دونوں کتابوں کو یہود اور نصاریٰ ہر ایک مانتے ہیں۔

جہاں تک صرف نصاریٰ کی کتابوں کا تعلق ہے تو ”اعمال الرسل“ جو ”لوقا“ کی طرف منسوب ہے، اس میں یہ عبارت درج ہے:

ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا۔ (۱)

اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ پر ان چند اشیاء واجبہ کے علاوہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، وہ یہ کہ تم اس جانور کے کھانے سے باز رہو جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اور خون سے اور اس جانور کو کھانے سے جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو اور زنا سے۔

اس کتاب میں دوسری جگہ یہ عبارت موجود ہے:

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْأُمَمِ
فَأرسلنا نحن إليهم و حكمنا أن لا يحفظوا
شيئاً مثل ذلك سوى أن يحافظوا على
أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم ومن
المخنوق والزنا۔ (۱)

ان لوگوں کے لئے جو امتوں میں سے ایمان لے
آئے، پس ہم نے ان کی طرف یہ حکم بھیجا کہ اس
جیسی کسی چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس
کے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس جانور کو کھانے سے
بچائیں جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور خون
سے اور گلا گھونٹے ہوئے جانور سے اور زنا سے۔

”بولوس“ جو نصاریٰ کے گمان کے مطابق رسول اور ان کے مقتدا اور
پیشوا ہیں، وہ اپنے پہلے رسالے میں ”اہل کورنشوس“ کی طرف لکھتے ہیں:

بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه
للسياطين لا لله فلست أريد أن تكونوا انتم
شركاء. الشياطين لا تقدر أن تشربوا
كأس الرب وكأس الشياطين ولا تقدر أن

ان تشرکوا فی مائدة الربّ وفی مائدة
الشیاطین۔ (۱)

بلکہ جو قومیں جانور ذبح کرتی ہیں، وہ شیطان کے نام
پر ذبح کرتی ہیں، اللہ کے لئے ذبح نہیں کرتیں۔ میں
نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے شرکاء بن جاؤ، تم اس
بات پر قادر نہیں ہو کہ رب کے پیالے سے بھی پیو اور
شیطان کے پیالے سے بھی پیو، اور تم اس پر قادر نہیں
ہو کہ رب کے دسترخوان اور شیطان کے دسترخوان
دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لو۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ”بولوس“ وہ شخص ہے جس نے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی نصوص کے برخلاف یہ حکم دیا کہ نصاریٰ کے حق میں توراہ کے
تمام احکام منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ذبح سے متعلق
احکام کو برقرار رکھا، چنانچہ اس نے ”مخوق“ جانور کو حرام قرار دیا اور اللہ
کے نام پر ذبح کرنے کو واجب قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذبح کے احکام
نصاریٰ کے اصل مذہب میں اسی طرح باقی تھے جس طرح یہودیوں کے
نزدیک تھے، یہودیوں کی کتابیں ذبح سے متعلق تفصیلی احکام سے بھری ہوئی
ہیں، چنانچہ ”مشنا“ جو یہودیوں کے نزدیک احکام شرعیہ کا بنیادی ماخذ ہے،

اس میں یہ بات درج ہے:

If he slaughtered with a hand-sickle or with a blint or with a read what he slaughter is valid. All any slaughters and at any time and with any implement excepting a reaping sickle or a saw or teeth or the binger nails, since these choke.(1)

یعنی اگر کوئی شخص ہاتھ کی چھری سے، یا تیز شیشے سے، یا بانس کے پھلکے سے ذبح کرے تو وہ جانور حلال ہے، ہر شخص جس وقت چاہے جس چیز سے چاہے ذبح کر سکتا ہے، البتہ درانتی سے، آری سے، دانت سے، اور انگلیوں کے ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں، جب کہ وہ دانت اور ناخن جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اس لئے کہ یہ 'مخنق' میں داخل ہے۔

ڈاکٹر ہربرڈ دینی "مشنا" کی مندرجہ بالا نص کے تحت لکھتے ہیں کہ ذبح کے جن احکام کا یہودی اعتبار کرتے ہیں، یہ اس شریعت کا ایک حصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، جس کا خلاصہ پانچ باتیں ہیں:

- ۱۔ جانور کے گلے پر چھری چلانے کے دوران کوئی وقفہ نہ ہونا واجب ہے۔ بلکہ واجب یہ ہے کہ چھری کو آگے پیچھے مسلسل چلایا جائے۔
- ۲۔ ذبح کرتے وقت جانور پر کسی بھاری چیز کا وزن نہ ڈالنا واجب ہے۔
- ۳۔ ذبح کرتے وقت جانور کی کھال پر یا اس کے گلے پر یا اس کی رگوں پر چھری کا دباؤ بھی نہ ڈالنا واجب ہے۔
- ۴۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت چھری حلق کی اس جگہ سے تجاوز نہ کرے جس جگہ سے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔
- ۵۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کا عمل زرخرہ کو یا رگوں کو اس کی جگہ سے ہٹانے میں کوئی اثر نہ کرے۔ (۱)

بہر حال! مندرجہ بالا نصوص ان کتابوں کی ہیں جن کو یہود اور نصاریٰ مقدس مانتے ہیں لہذا ان کے دین اور شریعت کا بنیادی مأخذ ہیں۔ یہ نصوص مندرجہ ذیل امور پر دلالت کرتی ہیں:

اوّلاً: منخنقة " اور "موقوذه" ان کی شریعت میں بھی حرام ہے جیسے ہماری شریعت میں حرام ہے۔

ثانیاً: ظاہر یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح کرنا واجب ہے۔ یا دوسری عبارت میں یوں کہا جائے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا واجب ہے، جیسا کہ "بولوس" کے اس رسالے سے ظاہر ہو رہا ہے جو

انہوں نے ”اہل کورنٹوس“ کے نام لکھا تھا جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔

ثالثاً: قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرغی کے حلال ہونے کا جو فتویٰ دیا جس کو نصرانی نے گردن موڑ کر مار دیا ہو، جیسا کہ ”احکام القرآن“ کی عبارت سے ظاہر ہے۔ اگر اس فتویٰ کی ان کی طرف نسبت صحیح ہے تو ان کا یہ فتویٰ ان کی دوسری عبارت سے متعارض ہے جو اسی کتاب ”احکام القرآن“ میں موجود ہے اور ان کا یہ فتویٰ ان کے اس گمان کی بنیاد پر ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک ”مخنوقہ“ جانور حلال ہے، اور اس مسئلہ میں انہوں نے یہ علت بیان فرمائی کہ جو چیز ان کے نزدیک ان کے مذہب میں حلال ہے، وہ ہمارے مذہب میں بھی حلال ہوگی۔ لیکن خود نصرا نیوں کی کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ان کا یہ گمان غلط تھا، اس لئے کہ ان کی مقدس کتابیں اس بات کی صراحت کر رہی ہیں کہ ”مخنوق“ جانور ان کے نزدیک حرام ہے، جیسا کہ ”اعمال الرسل“ کی عبارت ہم نے پیچھے ذکر کی۔ لہذا اگر شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوتا کہ ”مخنوق“ جانور نصاریٰ کے مذہب میں حرام ہے تو وہ ایسا فتویٰ نہ دیتے۔

رابعاً: حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، یہود و نصاریٰ کے نصوص سے اس کی صحت ظاہر ہوگئی، چنانچہ انہوں نے فرمایا:

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن

ذبائحہم حلال للمسلمین لأنہم یعتقدون
 تحريم الذبح لغير الله ولا یذکرون علی
 ذبائحہم الا اسم الله وان اعتقدوا فیہ
 تعالیٰ ماہو منزہ عنہ۔ (۱)

یہ بات علماء کے درمیان متفق ہے کہ ان (یہود و
 نصاریٰ) کے ذبح کردہ جانور مسلمانوں کے لئے
 حلال ہیں، اس لئے کہ یہ لوگ غیر اللہ کے نام ذبح
 کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور اپنے ذبائح پر اللہ کے
 نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ وہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ (تثلیث وغیرہ کا
 عقیدہ) رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک
 ہے۔

پانچویں دلیل

نصرانی کے مخنوقہ اور موتو ذہ کو حلال قرار دینے سے لازم آتا ہے
 کہ خانیق اور واقعہ اگر مسلمان ہو تو حیوان حرام ہے اور اگر خانیق نصرانی ہو تو
 حیوان اگرچہ نصرانی کے دین میں حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ”اس کا
 مخنوقہ حیوان مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔“

گو یا کہ ”خائق“ کا کافر ہونا اسکی امتیازی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل جائز قرار دیدیا گیا جو اس کی اور ہماری شریعت میں بالاجماع حرام ہے، اور یہ سارے بالکل بدیہی باطل نتائج ہمارے اس قول سے پیدا ہوئے کہ ہم نے کہا ”جس جانور کو اہل کتاب قتل کر دے وہ مسلمانوں کے لئے حلال ہے، چاہے وہ اسے غیر مشروع طریقہ ہی سے کیوں نہ قتل کرے“ اور ظاہر ہے جس قول سے ایسے باطل نتائج پیدا ہوں گے وہ بھی باطل ہوگا۔

چھٹی دلیل

چھٹی دلیل یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کو دوسرے کفار کے مقابلے میں جو خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے، وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک یہ کہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال ہے، دوسرے یہ کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لئے حلال ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ مسلمان کے لئے اہل کتاب کی کسی عورت سے نکاح کرنا اس وقت حلال ہے جب اس نکاح میں وہ تمام شرائط موجود ہوں جو ہماری شریعت میں واجب ہیں۔

لہذا اگر کوئی مسلمان کسی اہل کتاب خاتون سے غیر مشروع طریقے پر نکاح کر لے، مثلاً یہ کہ وہ خاتون اس کی محرمات میں ہو یا گواہوں کے بغیر نکاح کرے یا مشروع ایجاب و قبول کے بغیر نکاح کر لے، تو کوئی شخص بھی اس نکاح کو حلال نہیں کہتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب خاتون سے نکاح کا

حلال ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ نکاح شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ اور اگر وہ نکاح شریعت کے خلاف ہو تو اس کو درست کرنے کے لئے قرآن کریم کی اس آیت:

وَنِسَاؤُھُمْ حِلٌّ لَّكُمْ۔ (۱)

سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ (اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب اہل کتاب عورت ہمارے لئے حلال ہے تو اب ہر طرح سے حلال ہے، چاہے مشروع طریقے پر حاصل ہو یا غیر مشروع طریقے پر حاصل کی گئی ہو)

لہذا جب نکاح کے اندر یہ اصول ہے تو ”زخ“ کے اندر بھی یہی اصول نافذ ہوگا کہ انکا ذبیحہ ہمارے لئے اس وقت حلال ہوگا جب وہ مشروع طریقے پر زخ کیا گیا ہو۔ اور اگر وہ اس غیر مشروع طریقے پر زخ کیا گیا ہوگا، مثلاً خنق یا وقذ کے ذریعہ تو اس کو اس آیت:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ۔

سے استدلال کر کے حلال کرنا کیسے صحیح ہوگا، جبکہ ”نکاح“ اور ”زخ“ ایک ہی طرح کے دو حکم ہیں۔

ساتویں دلیل

ساتویں دلیل یہ ہے کہ ”میہ“ ”منخنقہ“ اور ”موقوذہ“ کی حرمت

چونکہ مطلق نص قطعی سے ثابت ہے، اس لئے فقہاء اُمت کا ان کی حرمت پر اجماع ہے، اگرچہ خانیق اور واقد اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے علم کے مطابق قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے بھی مخنوقہ اور موقوڑہ جانور کو حلال نہیں کہا ہے، اور قاضی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف مذکورہ عبارت میں حلال کہا ہے، اور ان کی یہ عبارت ان کی دوسری عبارت سے بالکل متضاد ہے جو اسی کتاب میں اس عبارت سے صرف ایک صفحہ پہلے درج ہے۔ کیا قرآن و حدیث کی ان نصوص کو اور ان دلائل قویہ کو جو ہم نے اوپر بیان کئے، صرف علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاذ فتویٰ کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے گا جبکہ وہ فتویٰ متناقض بھی ہے اور اس زعم پر مبنی ہے کہ ”مخنوقہ“ جانور نصاریٰ کے مذہب میں حلال ہے؟ جبکہ نصاریٰ کی مقدس کتابوں کی عبارات سے اس زعم کا خطا ہونا بھی ظاہر ہو گیا ہے۔

اور اگر ہم علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں عبارتوں کے تضاد سے قطع نظر بھی کر لیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ان کا صحیح مذہب یہی ہے، تب بھی ان کا یہ مذہب شاذ ہے جس کو قرآن و حدیث کے ان نصوص اور دلائل قویہ نے رد کر دیا ہے جن سے جمہور علماء اُمت نے استدلال فرمایا ہے۔ لہذا اس نازک معاملے میں ان کا قول لینا کسی طرح بھی مناسب نہیں، جبکہ یہ معاملہ حلت اور حرمت کا ہے اور حلت اور حرمت میں اختلاف کی صورت میں جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، اور یہاں پر تو نصوص قطعیہ اور اہل علم کے

اتفاق کی طرف نظر کرتے ہوئے جانب حرمت ہی متعین ہے۔

بہر حال! حق بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ حیوان کو مشروع طریقے پر ذبح کرتے ہوئے اس کی رگیں کاٹ کر اس کا خون نہ بہائیں۔ اور اگر اہل کتاب کسی جانور کو ”خنیق یا وقذ“ کے ذریعے یا کسی اور غیر مشروع طریقے سے قتل کر دیں تو وہ جانور حرام ہوگا۔

کیا کتابی کے ذبیحہ میں ”تسمیہ“ شرط ہے؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے؟ اس میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول

﴿۱﴾ پہلا قول یہ ہے کہ مسلمان اور کتابی دونوں کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے تسمیہ شرط ہے اور اس بارے میں مسلمان اور کتابی کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے۔ چنانچہ علامہ قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فالتسمیة مشترطة فی کل ذابح مع العمد
سواء کان مسلماً او کتابیاً فإن ترک
الکتابی التسمیة عن عمد أو ذکر اسم غیر

اللہ لم تحل ذبیحتہ، وروی ذلك عن
 علی وبہ قال النخعی والشافعی (۱) و
 حماد واسحاق واصحاب الرأی (۲)
 ہر ذبح پر عمداً تسمیہ پڑھنا شرط ہے، چاہے وہ مسلمان
 ہو یا کتابی ہو، اگر کتابی نے قصداً تسمیہ چھوڑ دیا اور
 ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا تو اس کا ذبیحہ
 حلال نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی بات
 منقول ہے اور امام نخعی، امام شافعی، امام حماد، امام
 اسحاق اور اصحاب الرأی کا یہی مسلک ہے۔

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع میں فرماتے ہیں:

ثم انما توکل ذبیحة الكتابی اذا لم یشہد
 ذبحہ ولم یسمع منه شئی اوسمع وشہد

(۱) ابن قدامہؒ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ذکر کیا ہے، لیکن ان کا مشہور
 مذہب یہ ہے کہ جب مسلمان کے لئے ”تسمیہ“ پڑھنا واجب نہیں ہے تو اہل کتاب
 کے لئے ”تسمیہ“ کیسے واجب ہوگا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص استخفافاً
 تسمیہ چھوڑ دے تو ان کے نزدیک بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اور ظاہر یہ ہے کہ کافر
 استخفافاً ہی ”تسمیہ“ کو ترک کرتا ہے، اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
 نزدیک اگر اہل کتاب ”تسمیہ“ چھوڑ دے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

(۲) المغنی لابن قدامہ، ج ۱۱، ص ۵۶۔

منه تسمية الله تعالى وحده، لأنه إذا لم
يسمع منه شئى يحمل على أنه قد سُمى الله
تبارك و تعالى و جرد التسمية، تحسینا
للظن به كما بالمسلم (۱)

ولو سمع منه ذكر اسم الله لكنه عنى بالله
عزوجلّ المسيح عليه الصلاة والسلام
قالوا: تؤكل، لأنه أظهر تسمية هي تسمية
المسلمين إلا اذا نصّ فقال: بسم الله
الذى هو ثالث ثلاثة، فلا تحل۔ وقد روى عن
سيدنا على رضى الله عنه أنه سئل عن ذبائح
اهل الكتاب و هم يقولون ما يقولون۔ فقال
رضى الله عنه: قد أحل الله ذبائحهم وهو
يعلم ما يقولون، فاما اذا سمع منه أنه سُمى
المسيح عليه الصلاة والسلام وحده
أو سُمى الله سبحانه و تعالى و سُمى

(۱) یہ بھی اس صورت میں ہے جب اہل کتاب کے بارے میں معروف و مشہور ہو کہ وہ
عموماً ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اگر معروف یہ ہو کہ وہ ”تسمیہ“ کو ترک
کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔

السمیح لا تؤکل ذبیحة۔ کذا روی عن
سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولم یرو عنه غیرہ
خلافة۔ (۱)

اگر کتابی کے جانور ذبح کرتے وقت کوئی موجود نہ ہو،
اور نہ ذبح کرتے وقت اس سے کچھ الفاظ سنے گئے
ہوں، یا ذبح کے وقت کوئی موجود ہو اور اس نے ذبح
کے وقت کتابی سے صرف ”تسمیہ“ کے الفاظ سنے
ہوں، تو ان تمام صورتوں میں اس کا ذبح کردہ جانور
کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ جس صورت میں اس سے
”تسمیہ“ کے الفاظ کسی نے نہ سنے ہوں تو جیسے مسلمان
کے ساتھ حسن ظن رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس کے
ساتھ بھی حسن ظن کا معاملہ کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا
کہ اس نے ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام لیا ہوگا۔
اور اگر کتابی سے ذبح کے وقت اللہ کا نام تو سنا گیا
لیکن اس نے اللہ سے (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ علیہ
السلام مراد لئے، تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے
ہیں کہ وہ جانور کھایا جائے گا، اس لئے کہ اس نے
ذبح کے وقت ظاہراً وہی ”تسمیہ“ کہا جو مسلمانوں کا

تسمیہ ہے۔ البتہ اگر وہ کتابی صراحت کرتے ہوئے یوں کہے کہ: "بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ" میں اس کے نام پر ذبح کرتا ہوں جو تین میں کا تیسرا ہے تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کتاب کے ذبائح کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ وہ ایسی ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذبیحہ حلال فرمایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی اہل کتاب کے بارے میں یہ سنا جائے کہ وہ ذبح کے وقت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لیتا ہے تو اس صورت میں تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے اور اس کے خلاف کوئی بات مروی نہیں۔

۲۔ دوسرا قول

فقہاء کا دوسرا قول یہ ہے کہ کتابی کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے

ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا واجب نہیں، لہذا اگر کتابی ذبح کے وقت ”تسمیہ“ سے سکوت کرے تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ البتہ اگر وہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے، مثلاً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، یہی قول مالکیہ کا ہے، چنانچہ ”شرح الصغیر“ للدرر میں ہے:

وَجِبَ عِنْدَ التَّذْكِةِ ذِكْرَ اسْمِ اللّٰهِ بِأَيِّ صِيغَةٍ
 مِنْ تَسْمِيَةٍ أَوْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ تَكْبِيرٍ لَكِنْ
 لِمُسْلِمٍ لَا كِتَابِيٍّ فَلَا يَجِبُ عِنْدَ ذَبْحِهِ ذِكْرَ
 اللّٰهِ بَلِ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَذْكَرَ اسْمَ غَيْرِهِ مِمَّا
 يَعْقِدُ الْوَهَيْتَهُ - (۱)

”تذکیہ“ یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب ہے، چاہے وہ کوئی بھی صیغہ ہو تسمیہ کا ہو، یا تہلیل کا ہو، یا تسبیح ہو، یا تکبیر ہو، لیکن یہ وجوب مسلمان کے لئے ہے، کتابی کے لئے نہیں، لہذا کتابی کے لئے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب نہیں، بلکہ ان کے لئے شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ جن دوسرے معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں ذبح کے وقت ان کا نام نہ لیں۔

تیسرا قول

تیسرا قول یہ ہے کہ کتابی کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے ”تسمیہ“ پڑھنا واجب نہیں، اور اگر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیں تب بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ قول حضرت عطاء، حضرت مجاہد، حضرت مکحول رحمہ اللہ علیہم سے مروی ہے۔ جیسا کہ ابن قدامہ نے یہ قول بیان فرمایا ہے۔ (۱)

بہر حال! اگر ہم نصوص میں غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ مندرجہ بالا تین اقوال میں پہلا قول راجح ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ
لَفِسْقٌ -

اس آیت میں ”لَمْ يُذْكَرْ“ مجہول کا صیغہ ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ”تسمیہ“ کو چھوڑنا حیوان کو حرام کر دیتا ہے، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ اسی طرح اشیاء محرمہ کے بیان کے تحت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ -

اس آیت میں بھی ”أَهْلٌ“ مجہول کا صیغہ ہے جو مسلمان اور کتابی دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ”وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّسَبِ“ یہ

آیت بھی صیغہ مجہول پر مشتمل ہے۔

اور ہم پیچھے بیان کر چکے کہ یہود اور نصاریٰ میں سے ہر ایک حیوانات کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کرتے تھے، اور ”بولوس“ نے نصاریٰ پر دوسری قوموں کے ذبح کردہ جانوروں کو حرام قرار دیدیا تھا، اس لئے کہ دوسری قومیں اللہ کے نام کے بجائے شیطان کے نام پر ذبح کرتی تھیں، جس کی تفصیل ماقبل میں ذکر کردہ اس اقتباس میں گزری ہے جو ”بولوس“ کے اس پہلے رسالے سے لیا گیا تھا جو اس نے اہل ”کورنٹوس“ کے نام لکھا تھا۔ اسی وجہ سے اہل کتاب کے ذبیحہ کو مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا تھا، جیسا کہ ماقبل میں حافظ ابن کثیر کے حوالے سے تفصیل گزری۔ لہذا اگر اہل کتاب ”تسمیہ“ چھوڑ دیں یا ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیں، تو چونکہ اس صورت میں وہ علت جس کے نتیجے میں ان کا ذبیحہ حلال ہوا تھا، مفقود ہوگئی تو حرمت واپس لوٹ آئی۔

ہم نے ماقبل میں کتابی کے ہاتھ کا ”مخنوقہ“ اور ”موقوذہ“ جانور کی حرمت پر جو دلائل بیان کئے ہیں، ان میں سے اکثر دلائل ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے کے موضوع پر بھی منطبق ہوتے ہیں۔ البتہ ”تسمیہ“ چھوڑنے کا معاملہ ”خلق“ اور ”وقذ“ کے مقابلے میں اس اعتبار سے اہوں اور اخف ہے کہ اہل کتاب کے متروک التسمیہ جانور کی حلت اور حرمت کا مسئلہ مجتہد فیہ ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل پیچھے گزری۔ لیکن ”خلق“ اور ”وقذ“ کا مسئلہ ائمہ مذہب کے درمیان محل اختلاف بھی نہیں ہے۔ جہاں تک قاضی ابن عربیؒ

کی متعارض عبارت کا تعلق ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی وجہ سے اس مسئلہ کو مختلف فیہ قرار دیا جاسکے۔

بہر حال! صحیح، راجح اور نصوص ظاہرہ سے مؤید بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے اس وقت حلال ہے جب وہ ذبح کی ان تمام شروط کی رعایت کریں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور جس وقت ان کے ذبیحہ کھانے کی اجازت کا حکم نازل ہوا تھا اس وقت وہ تمام شرائط معلوم اور مقرر تھیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ان مادہ پرست اور دہریتین کے ذبیحہ کا حکم جو اپنے آپ کو ”نصاری“ کہتے ہیں

پھر اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ذبح کرنے والا یہود و نصاری کے دین پر قائم ہو اور اس دین کے بنیادی عقائد کا عقیدہ رکھنے والا ہو، اگرچہ وہ بنیادی عقائد اسلام کے خلاف ہیں۔ مثلاً ”تثلیث“ کا عقیدہ، ”کفارہ“ کا عقیدہ، تحریف شدہ تورات اور انجیل پر ایمان وغیرہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت اگرچہ وہ مذکورہ بالا باطل عقائد رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ”اہل کتاب“ کا لقب دیا اور قرآن کریم میں ان کے ان باطل عقائد کی صراحت فرمائی، چنانچہ فرمایا:

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ - (۱)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (۱)

ایک اور جگہ پرفرمایا:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ - (۲)

ایک اور مقام پرفرمایا:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ - (۳)

چنانچہ امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وروی عبادة بن نسی عن غضیف بن

الحارث أن عاملاً لعمر بن الخطاب رضی

اللہ عنہ کتب إليه أن ناساً من السامرة

يقرؤون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون

بالبعث فماترى؟ فكتب اليه عمر: أنهم

طائفة من أهل الكتاب (۴)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک عامل نے

(۱) سورة المائدة، آیت ۷۳ -

(۲) سورة التوبة، آیت ۳۰ -

(۳) سورة المائدة، آیت ۱۳ -

(۴) احکام القرآن للجصاص، ج ۲، ص ۳۲۳ -

آپ کو لکھا کہ ”سامرہ“ قوم کے کچھ لوگ تورات پڑھتے ہیں اور وہ ہفتہ کے دن اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب میں حضرت عمرؓ نے ان کو لکھا کہ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے ”اہل کتاب“ میں ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ توحید خالص پر ایمان رکھتا ہو، اور نہ یہ شرط ہے کہ وہ موجودہ تورات اور انجیل کی تحریف پر ایمان رکھتا ہو، اور نہ یہ شرط ہے کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی شریعتوں کے منسوخ ہونے پر ایمان رکھتا ہو جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بلکہ ”اہل کتاب“ ہونے کے لئے صرف ان بنیادی عقائد پر ایمان کافی ہے جن پر یہود و نصاریٰ ایمان لاتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ دوسرے مذہب والوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔

لیکن کسی شخص کے اہل کتاب میں سے ہونے کے لئے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا نام ”نصاری“ کے نام کی طرح ہو، اور نہ یہ کافی ہے کہ سرکاری مردم شماری کے وقت اس کا نام ”نصاری“ کی فہرست میں لکھا جاتا ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کے عقائد بھی اہل کتاب جیسے عقائد ہوں۔ آج ہمارے دور میں خاص طور پر مغربی ممالک میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد

نظر آتی ہے جن کے نام تو ”نصاری“ کے نام کی طرح ہوتے ہیں اور بعض اوقات مردم شماری کے وقت ان کا نام ”نصاری“ کی فہرست میں درج کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دہریے اور مادہ پرست ہوتے ہیں اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا، دوسرے عقائد رکھنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ایسے تمام مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں، اس قسم کے لوگ ”نصاری“ میں سے نہیں ہیں، لہذا ان کو ”اہل کتاب“ میں سے خیال کرنا جائز نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔

اس کی دلیل بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ ”اہل کتاب“ اپنے خاص عقائد کی وجہ سے دوسرے کفار سے ممتاز ہیں۔ مثلاً وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں، رسولوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا جو شخص سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہ ہو، اور نہ رسولوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ اور نہ ہی کتب سماوی پر ایمان رکھتا ہو، اس کو اہل کتاب میں شمار کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ”نصاری بنی تغلب“ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی حکم مروی ہے، امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

روی محمد بن سیرین عن عیبة قال:

سألت علیاً عن ذبائح نصاری العرب، فقال:

لا تحل ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دینهم

بشنى إلا بشرب الخمر۔ (۱)

حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نصاریٰ عرب کے ذبائح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ان کے ذبائح حلال نہیں، اس لئے کہ ان کا اپنے دین سے شراب پینے کے علاوہ اور کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یہودیت اور نصرانیت کے بنیادی عقائد پر ان کا ایمان ہے، لہذا صرف نصرانیت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو اہل کتاب میں شمار کرنا ممکن نہیں۔

لیکن یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس کا ایمان ہے اور نہ رسولوں پر اس کا ایمان ہے اور نہ ہی آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان ہے، البتہ اگر ایک شخص نام سے اور ظاہری علامات سے نصرانی معلوم ہو رہا ہے تو اس کو نصرانی سمجھنا جائز ہے، جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ اس کے عقائد مادہ پرستوں کے عقائد کی طرح ہیں۔

ذبح کے مجہول ہونے کی صورت میں اس کے ذبیحہ کا حکم

اگر ذبح کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے کیا عقائد ہیں؟ یا یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس طریقے سے جانور ذبح کیا ہے؟ ایسے ذبیحہ کے بارے میں حکم مختلف ہیں:

﴿۱﴾ اگر مسلمانوں کا شہر ہے، یعنی اس شہر کی اکثر آبادی مسلمان ہے، ایسے شہر کے بازار میں جو گوشت فروخت کیا جائے اس کا کھانا حلال ہے، اگرچہ ہم نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہو، اور نہ یہ معلوم ہو کہ ذبح کرنے والے نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلامی شہر میں جو چیز فروخت ہوگی اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ احکام شریعت کے موافق ہے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی اصل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے:

ان قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان

قوماً يأتوننا بلحم لا ندرى اذكر اسم الله

عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه انتم وكلوه -

قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (۱)

ایک قوم کے کچھ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ

(۱) صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب ذبیحۃ الأعراب ونحوہم، حدیث نمبر

وسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے وقت انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کا زمانہ کفر سے قریب تھا۔ (یعنی وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے)

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں:

قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاہ
غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم
فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين
خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن
تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم
الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح
ذبيحته إذا سمى، ويستفاد منه أن ما يوجد
في أسواق المسلمين محمول على الصحة
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن

الناب أنهم عرفوا التسمية و بهذا الأخير

جزم ابن عبد البر - (۱)

ابن التین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ایسے جانور پر ”تسمیہ“ پڑھنے کا تعلق ہے جس کے ذبح کا عمل دوسروں نے انجام دیا ہو اور ”تسمیہ“ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں ان کو علم نہ ہو، تو ایسے جانور کے بارے میں ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے (کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ کس نے یہ جانور ذبح کیا ہے اور اس نے ”تسمیہ“ پڑھی یا نہیں؟) البتہ اگر اس جانور کے بارے میں ”تسمیہ“ کے خلاف (عدم تسمیہ کی) بات ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں اس کو عدم صحت (حرام ہونے) پر محمول کیا جائے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم اب اس پر تسمیہ پڑھ کر کھا لو، اس ارشاد میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس وقت تمہارا ”تسمیہ“ پڑھنا ایسے جانور کا کھانا مباح کر دیتا ہے جس جانور کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ آیا ذبح کرتے وقت اس پر ”بسم اللہ“ پڑھی گئی یا نہیں؟ جب کہ ذبح کرنے والا ایسا شخص ہے کہ اگر

وہ ”تسمیہ“ پڑھ کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ مسلمانوں کے بازاروں میں جو گوشت فروخت کیا جاتا ہے، اس کو صحت پر ہی محمول کیا جائے گا، اسی طرح جس کو دیہاتی مسلمانوں نے ذبح کیا ہو، اس لئے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ ”تسمیہ“ پڑھنے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس آخری بات پر حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جزم فرمایا ہے۔

پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کہنا کہ ”ان کا زمانہ کفر سے قریب تھا“ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذبح کے وقت وجوب تسمیہ کے بارے میں علم ہی نہ رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دیدی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان اگرچہ جاہل ہو، پھر بھی حتی الامکان اس کے عمل کو صحت پر محمول کیا جا۔ گا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے یہ عمل غلط طریقے پر کیا ہے۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے: ”باب ذبیحۃ الأعراب ونحوہم“ اور نسائی کی روایت میں اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ یہ حضرات ”اعراب“ یعنی دیہاتی تھے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان سے نقل

کیا ہے۔ اور عام طور پر اعراب میں علم کم ہی ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ دوسری صورت

اگر کسی شہر کی اکثر آبادی کفار غیر اہل کتاب کی ہو، تو اس شہر کے بازار میں جو گوشت فروخت ہو رہا ہوگا، وہ مسلمان کے لئے حلال نہیں ہوگا، جب تک کہ جس گوشت کو خریدا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقین کے درجے میں یا غالب گمان کے درجے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اس جانور کا گوشت ہے جس کو مسلمان یا کتابی نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہے۔ یہ صورت بالکل واضح ہے۔

﴿۳﴾ تیسری صورت

مندرجہ بالا دوسری صورت کا حکم اس شہر کے بارے میں بھی ہے جس کی آبادی مسلمان، بت پرست، اور آتش پرست کے درمیان مخلوط ہے۔ اس لئے کہ جس گوشت کے بارے میں شک ہو جائے، وہ حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا حلال ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکار کو حرام قرار دیا جس کے شکار میں ایسا دوسرا کتا شامل ہو جائے جس کو چھوڑتے وقت ”تسمیہ“ نہیں پڑھی گئی ہے۔

﴿ ۴ ﴾ چوتھی صورت

اگر کسی شہر کی اکثر آبادی ”اہل کتاب“ کی ہے تو اس شہر کے گوشت کا وہی حکم ہے جو مسلمانوں کے شہر کا ہے (یعنی وہاں کا گوشت خرید کر کھانا حلال ہے) اس لئے ذبح کے معاملے میں ان کا حکم مسلمانوں کی طرح ہے۔ لیکن اگر یقین یا غالب گمان کے درجے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس شہر کے اہل کتاب شرعی طریقے پر جانور ذبح نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں اس شہر کے بازار کا گوشت خرید کر کھانا جائز نہیں، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے بعینہ یہ گوشت جس کو میں خرید رہا ہوں، شرعی طریقے پر ذبح شدہ جانور کا گوشت ہے۔ اور آج مغربی ممالک کے اکثر شہروں کا یہی حکم ہے۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ ہم آگے بیان کریں گے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي هَدَانَا
 لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنُؤْمِنَ بِهِ
 وَلَا نَحْمَدُهُ
 إِلَّا بِالْإِيمَانِ
 الَّذِي كُنَّا
 عَلَيْهِ مِنَ
 الْقَبْلِ وَلَئِنْ
 سَأَلْنَا أَهْلَ
 الْبَيْتِ لَنَقُولَنَّ
 مَعَهُمْ
 مَا نَكْتُمُ
 فِي قُلُوبِنَا
 إِنَّنَا صَائِرُونَ
 بِنَاكُمْ


جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے

اور حکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے

آبادی کی کثرت اور ان کے لئے غذائی ضروریات کی کثرت اس بات کا سبب بنی کہ حیوانات کو ذبح کرنے کے لئے آٹومیٹک مشینی آلات کو استعمال میں لایا جائے، چنانچہ اس مقصد کے لئے آج بڑے بڑے ذبح خانے وجود میں آچکے ہیں جن میں ذبح کئے جانے والے جانوروں کی یومیہ تعداد ہزاروں جانور ہیں۔ اس لئے ان مشینی آلات سے ذبح کئے جانے

والے جانوروں کے بارے میں شرعی حکم جاننا ضروری ہے، اور جانوروں کی اقسام کے اعتبار سے ان کے ذبح کا طریقہ بھی مختلف ہے، چنانچہ مرغی کو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، گائے اور بکری کو ذبح کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، لہذا ہم ہر جانور کو ذبح کرنے کا تفصیلی طریقہ علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہوئے اس کا شرعی حکم بھی بیان کریں گے۔

مرغی ذبح کرنے کا طریقہ

کینیڈا، جنوبی افریقہ اور جزیرہ ری یونین میں مرغی ذبح کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، ایک بہت بڑی مشین ہوتی ہے جو ذبح سے لے کر گوشت کی پیکنگ تک کے تمام مراحل خود انجام دیتی ہے، اس میں ایک طرف سے زندہ مرغی داخل کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے صاف ستھرا گوشت پیک ہو کر نکلتا ہے، اور اس کے تمام مراحل یعنی مرغی کا ذبح ہونا، اس کی کھال کا ترنا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکالنا، اس کے گوشت کو صاف کرنا، گوشت کے ٹکڑے کرنا، گوشت کو پیک کرنا، بجلی کی آٹومینک مشین کے ذریعہ انجام پاتے ہیں۔ یہ مشین ایک لمبی لوہے کی پٹری پر مشتمل ہوتی ہے، جو ایک ہال کی چوڑائی میں دو دیواروں کے درمیان (اوپر کے حصے میں) نصب ہوتی ہے۔ اس پٹری کے نچلے حصے میں بہت سے ٹکے لٹکے ہوتے ہیں جن کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، پھر ایک بڑے ٹرک کے اندر سیٹروں مرغیاں لائی جاتی ہیں، اور ہر مرغی کو پاؤں کے

ذریعہ پٹری کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں تو ہک کے کڑوں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور باقی سارا جسم اس طرح الٹا لٹکا ہوتا ہے کہ اس کی چونچ اور گردن زمین کی طرف ہوتی ہے، پھر یہ ہک پٹری پر لٹکی ہوئی مرغی کو لے کر چلتے ہیں اور مرغی کو اس جگہ پر لے آتے ہیں جہاں اوپر سے ٹھنڈا پانی چھوٹے آبشار کی شکل میں گرنے لگتا ہوتا ہے، چنانچہ وہ مرغیاں اس ٹھنڈے پانی سے گزرتی ہیں، اس ٹھنڈے پانی سے گزارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے اوپر کے میل کچیل سے صاف کر دیا جائے۔

بعض اوقات اس پانی کے اندر کرنٹ ہوتا ہے جو مرغی کو سن کر دیتا ہے، پھر وہ ہک مرغی کو اس جگہ پر لاتے ہیں جس کے نیچے گھومنے والی چھری نصب ہوتی ہے، وہ چھری بہت تیزی سے گھومتی ہے۔ یہ چھری اس جگہ پر نصب ہوتی ہے جہاں ان الٹی لٹکی ہوئی مرغی کی گردن پہنچتی ہے، جب وہ ہک چھری کی جگہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ ہک اس گھومنے والی چھری کے گرد ہلائی شکل میں گھومتا ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار مرغیوں کی گردنیں اس چھری کے پاس ایک ساتھ پہنچتی ہیں اور وہ چھری ان گردنوں پر گزر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان تمام مرغیوں کی گردنیں خود بخود کٹ جاتی ہیں۔

پھر وہ ہک مرغی کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اب ایسی جگہ پر ان کا گزر ہوتا ہے جہاں دوبارہ ان مرغیوں پر پانی گرایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ پانی گرم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ ان کے پروں کو صاف کرنا

مقصود ہوتا ہے۔ پھر آگے دوسرے مراحل ہوتے ہیں، یعنی اس کی آنتوں کو نکالنا، گوشت کو صاف کرنا، اس کے ٹکڑے کرنا، اور اس کی پیکنگ کرنا وغیرہ۔ چونکہ یہ تمام مراحل ہماری ذبح کی بحث سے خارج ہیں، اس لئے ان کے بیان کو ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ بجلی کی مشین مسلسل سارا دن چلتی رہتی ہے اور بعض اوقات دن رات چلتی ہے، استثنائی حالات کے علاوہ کبھی بند نہیں ہوتی۔

مندرجہ بالا ذبح کے طریقے میں شرعی نقطہ نظر سے چار امور قابل بحث ہیں۔

﴿۱﴾ مرغیوں کا بجلی کے کرنٹ پر مشتمل ٹھنڈے پانی سے گزرنا۔

﴿۲﴾ گھومنے والی چھری سے گردن کا کٹنا۔

﴿۳﴾ گرم پانی سے مرغیوں کا گزرنا۔

﴿۴﴾ اس مشین پر طریقے میں ”تسمیہ“ پڑھنے کے وجوب کو کیسے ادا کیا جائے

گا؟

﴿۱﴾ جہاں تک مرغی کی گردن کاٹنے سے پہلے اس کو ٹھنڈے پانی سے

گزارنے کا تعلق ہے تو یہ طریقہ تمام مذبح خانوں میں اختیار نہیں کیا جاتا،

بلکہ اکثر مذبح خانوں میں ٹھنڈے پانی سے گزارنے کا عمل موجود نہیں ہے۔

بہر حال! اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس ٹھنڈے پانی میں بجلی کا

کرنٹ نہ ہو تو اس طرح ٹھنڈے پانی سے گزارنے سے ذبح کے عمل میں کوئی

اثر واقع نہیں ہوتا، اور اگر اس پانی کے اندر کرنٹ موجود ہو تو عادتاً وہ کرنٹ

حیوان کی موت کا سبب نہیں بنتا، البتہ اسکا دماغ ماؤف ہو جاتا ہے، دماغ کے ماؤف ہو جانے سے دل سکڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس جانور کے ذبح کے وقت عادتاً اتنا خون نہیں نکلتا جتنا خون اس جانور سے نکلتا ہے جس کو ماؤف نہ کیا گیا ہو، البتہ صرف اس عمل سے اس جانور کی موت واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی معین جانور کے بارے میں یہ تحقیق ہو جائے کہ صرف اس عمل کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگئی تھی تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ بعد میں شرعی طریقے پر اس کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ لہذا یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس ٹھنڈے پانی یا بجلی کے کرنٹ میں اتنی بلاقت نہیں ہے کہ جو حیوان کی موت واقع کرنے کے لئے کافی ہو، اس لئے اس موقع پر اس کی سخت نگرانی ضروری ہے کہ اس عمل کے ذریعہ کسی حیوان کی موت واقع نہ ہو جائے، اور مردہ ہونے کی حالت میں وہ جانور آگے نکل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس عمل کا ترک اولیٰ ہے، تا کہ شک و شبہ باقی نہ رہے۔

﴿۲﴾ جہاں تک گھومنے والی چھری سے ذبح کرنے کا تعلق ہے تو یہ چھری چکی کے مشابہہ ہوتی ہے اور اس کے کنارے تیز ہوتے ہیں، اور یہ چکی مسلسل تیزی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے اور مرغیوں کی گردنیں اس کے کناروں پر گزرتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی گردنیں خود بخود کٹ جاتی ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ اس چھری کے ذریعہ مرغی کی تمام رگیں کٹ جاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے مرغی اس حک میں اس طرح حرکت کر

جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں مرغی کی گردن اس گھومنے والی چھری کے سامنے پوری طرح نہیں آتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کی گردن بالکل نہیں کٹتی، اور بعض اوقات اتنی تھوڑی سی کٹتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تمام رگیں کٹنے میں شک ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں اس کے ذریعہ ”ذکاۃ شرعی“ حاصل نہیں ہوتی۔

﴿۳﴾ جہاں تک ”تسمیہ“ پڑھنے کا تعلق ہے تو اس طریقے سے ذبح کرنے کی صورت میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، پہلی مشکل ذابح کی تعیین میں ہے، کیونکہ ”تسمیہ“ پڑھنا ذابح پر واجب ہے، حتیٰ کہ اگر ایک شخص ”تسمیہ“ پڑھے اور دوسرا شخص ذبح کرے تو یہ صورت جائز نہیں، لہذا اب سوال یہ ہے کہ اس مشینی ذبح کے عمل میں ”ذابح“ کون ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاسکتا ہے کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ وہ مشین اشارت کی وہ ”ذابح“ ہے، کیونکہ بجلی کی مشینوں کی تمام کارروائیاں اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں جس نے وہ مشین چلائی ہے، اس لئے کہ ”آلہ“ (مشین) ذوی العقول نہیں ہے کہ اس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے لہذا فعل کی نسبت اسی شخص کی طرف کی جائے گی جس نے اس ”آلہ“ کو استعمال کیا ہے، اور ”آلہ“ کے واسطے سے وہی شخص ”فاعل“ کہلائے گا۔

لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت پہلی مرتبہ مشین اشارت کر دی تو بس وہ ایک ہی مرتبہ مشین اشارت کرتا ہے، پھر وہ مشین مسلسل سارے اوقات کار میں چلتی رہتی ہے اور بعض اوقات دن رات وہ

مشین چلتی رہتی ہے اور ہزاروں مرغیوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہے، اب اگر مشین چلانے والے نے صبح پہلی مرتبہ مشین اشارت کرتے وقت ”بسم اللہ“ پڑھ لی تو کیا ایک مرتبہ کی ”بسم اللہ“ ان ہزاروں مرغیوں کے لئے کافی ہوگی جو سارا دن اس مشین کے ذریعہ ذبح ہوتی رہیں؟ قرآن کریم کی آیت:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر حیوان کے ذبح کے وقت مستقل ”بسم اللہ“ پڑھنا ضروری ہے کہ ”بسم اللہ“ پڑھنے کے فوراً بعد اس کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے اس کی بنیاد پر مندرجہ ذیل مسائل استنباط فرمائے ہیں:

پہلا مسئلہ

چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ:

وأما الشرط الذي يرجع إلى محل الذكاة،
فمنها تعيين المحل بالتسمية في الذكاة
الاختيارية، وعلى هذا يخرج ما اذا ذبح و
سمى ثم ذبح أخرى، يظن أن التسمية
الأولى تجزئ عنهما لم تؤكل فلا بد أن
يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة۔ (۱)

(۱) فتاویٰ ہندیہ، کتاب الذبائح، باب الاول، ج ۵، ص ۲۸۶۔

پس وہ شرط جو محل ذکاۃ سے متعلق ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذکاۃ اختیار یہ میں تسمیہ کے ساتھ محل تسمیہ کو متعین کرنا ہے، لہذا اس شرط کی وجہ سے یہ صورت حد جواز سے خارج ہو جائے گی کہ اگر ایک شخص نے ذبح کیا اور تسمیہ پڑھی اور پھر دوسرا جانور اس خیال سے ذبح کر لیا کہ پہلی تسمیہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی تو یہ دوسرا جانور نہیں کھایا جائے گا، لہذا ہر ذبیحہ کے لئے علیحدہ جدید بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔

دوسرا مسئلہ

فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ:

ولو أضجع شاة وأخذ السکین وسمی ثم ترکها و ذبح شاة أخرى وترک التسمیة عامداً علیها لاتحل، کذا فی الخلاصة (۱)
 اگر کسی شخص نے بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹایا اور چھری ہاتھ میں لی اور بسم اللہ پڑھی پھر اس بکری کو چھوڑ دیا اور دوسری بکری پکڑ کر ذبح کر دی اور اس

پر عمداً بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ بکری حلال نہیں
ہوگی۔

تیسرا مسئلہ

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وإذا أضع شاة ليدبح و سَمَى عليها ثم
كَلَّمَ انساناً، أو شرب ماءً أو حدّد سكيناً أو
أكل لقمةً أو ما أشبه ذلك من عمل لم
يكثر، حَلَّت بتلك التسمية، وإن طال
الحديث و كثر العمل كره أكلها، وليس في
ذلك تقدير، بل ينظر فيه الى العادة، إن
استكثره الناس في العادة يكون كثيراً، وإن
كان يعد قليلاً فهو قليل۔ (۱)

اگر ایک شخص نے بکری کو ذبح کرنے کے لئے لٹایا
اور اس پر بسم اللہ بھی پڑھ لی، پھر کسی انسان سے بات
کی یا پانی پیا، یا چھری تیز کی، یا ایک لقمہ کھایا، یا اس
جیسا کوئی معمولی کام کر لیا (اور پھر اس جانور کو ذبح

کیا) تو اس صورت میں پہلی پڑھی ہوئی تسمیہ کے ذریعہ یہ بکری حلال ہو جائے گی۔ اور اگر بسم اللہ پڑھنے کے بعد لمبی بات چیت کر لی، یا بہت زیادہ کام کر لیا اور پھر بکری ذبح کی تو اس بکری کو کھانا مکروہ ہے۔ اور عمل کے کثیر اور قلیل ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں عادت کو دیکھا جائے گا، اگر عادت لوگ کسی عمل کو کثیر سمجھتے ہیں تو وہ کثیر شمار ہوگا اور جس عمل کو عادت قلیل سمجھتے ہیں اس کو قلیل سمجھا جائے گا۔

علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والتسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح
 أو قريباً منه كما تعتبر على الطهارة - وإن
 سمي على شاة ثم أخذاً حري فذبحها
 بتلك التسمية لم يجز ، سواء أرسل
 الأولى أو ذبحها، لأنه لم يقصد الثانية بهذه
 التسمية - وإن رأى قطعاً من الغنم فقال:
 بسم الله، ثم أخذ شاه فذبحها بغير تسمية
 لم يحل - وإن جهل كون ذلك لا يجزئ لم

يجر مجرى النسيان، لأن النسيان يسقط
 المؤاخذه . والجاهل مؤاخذه، ولذلك
 يفطر الجاهل بالأكل فى الصوم دون
 الناسى، وإن أضع شاة ليذبحها وسمى ثم
 ألقى السكين وأخذ أخرى اورد سلاماً
 أو كلم انساناً أو استسقى ماء ونحو ذلك و
 ذبح حلّ، لأنه سَمَى على لك الشاة
 بعينها. ولم يفصل بينهما الا بفصل يسير
 فأشبهه مالولم يتكلم (۱)

چوتھا مسئلہ

فرمایا کہ ذبیحہ پر وہ ”تسمیہ“ معتبر ہے جو ذبح کے وقت
 پڑھا جائے یا ذبح کے بالکل قریبی وقت میں پڑھا
 جائے، جیسا کہ طہارت میں بھی ایسا ہی ”تسمیہ“ معتبر
 ہے، لہذا اگر کسی شخص نے ایک بکری پر تسمیہ پڑھا، پھر
 اس نے دوسری بکری پکڑی اور پہلے ”تسمیہ“ کے
 نتیجے میں اس کو ذبح کر دیا تو یہ ”تسمیہ“ کافی نہیں ہے،

(اور اس دوسری بکری کا کھانا حلال نہیں) چاہے پہلی بکری کو اس نے چھوڑ دیا ہو یا ذبح کر دیا ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے دوسری بکری کے ارادے سے تسمیہ نہیں پڑھا تھا۔

پانچواں مسئلہ

اگر کسی شخص نے بکریوں کا ریوڑ دیکھ کر ”بسم اللہ“ کہا اور پھر اس میں سے ایک بکری پکڑ کر ”بسم اللہ“ کے بغیر ذبح کر دیا تو یہ بکری حلال نہیں ہوگی، اور اگر وہ جہالت کی وجہ سے ایسا کرے تب بھی وہ پہلی ”بسم اللہ“ کافی نہیں ہوگی، اس لئے ”جہالت“ کو ”نسیان“ کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ”نسیان“ مؤاخذہ کو ساقط کر دیتا ہے اور ”جہل“ قابل مؤاخذہ ہوتا ہے۔ اس لئے روزہ کی حالت میں ”جہالت“ سے کھالینے سے وہ مفطر صوم ہو جائے گا اور بھول کر کھالینے سے مفطر صوم نہیں ہوگا۔

چھٹا مسئلہ

اگر کسی شخص نے ذبح کرنے کے لئے بکری کو لٹایا اور

اس پر ”بسم اللہ“ پڑھی، پھر جو چھری ہاتھ میں تھی اس کو پھینک دیا اور دوسری چھری اٹھالی، یا بسم اللہ پڑھنے کے بعد کسی کے سلام کا جواب دیا، یا کسی سے بات کر لی، یا پانی طلب کیا، یا اس جیسا کوئی مختصر عمل کر لیا، اور پھر بکری کو ذبح کیا تو وہ بکری حلال ہوگی، اس لئے کہ اس نے بعینہ اس بکری پر ”بسم اللہ“ پڑھی تھی اور بسم اللہ اور ذبح کے درمیان معمولی درجے کا فصل کیا ہے، لہذا یہ فصل ”بسم اللہ“ کے بعد کوئی بات نہ کرنے کے مشابہ ہو گیا۔

علامہ مواق مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال مالك : لا بد من التسمية عند الرمي
وعند إرسال الجوارح و عند الذبح لقوله
(وَإِذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) (۱)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت:

وَإِذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ -

کی وجہ سے تیر پھینکتے وقت اور شکاری جانور کو چھوڑتے

(۱) التاج و الإكليل بهامش مواهب الجليل، كتاب الذكاة،

وقت اور ذبح کے وقت تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔

مندرجہ بالا فقہی عبارات اس بارے میں بالکل صریح ہیں کہ جو جمہور ائمہ ذبح کے وقت تسمیہ پڑھنے کو جانور کے حلال ہونے کے لئے شرط قرار دیتے ہیں، انہی جمہور ائمہ کے نزدیک اس تسمیہ کا متعین جانور پر ہونا اور ذبح کے وقت تسمیہ پڑھنا، اور تسمیہ اور ذبح کے درمیان معتد بہ فاصلہ نہ ہونا بھی شرط ہے۔ یہ تمام شرائط مندرجہ بالا مشینی ذبح کے طریقے میں نہیں پائی جاتیں، اس لئے کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ مشین کو اشارت کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، اس نے معین مرغی پر بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اس کی ”بسم اللہ“ اور ہزاروں مرغیوں کے ذبح کے درمیان بڑا فاصلہ بھی موجود ہے، بعض اوقات یہ فاصلہ پورے دن تک لمبا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پورے دن رات اور بعض اوقات دو دو دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرتبہ پڑھی گئی ”بسم اللہ“ ان تمام حیوانات کی ذکاۃ کے لئے کافی نہیں ہوگی۔

اور مشینی ذبح کی یہ صورت اس مسئلے کے زیادہ قریب ہے جو علامہ ابن قدامۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغنی“ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور ان پر ایک مرتبہ ”بسم اللہ“ پڑھ دی اور پھر اس ریوڑ میں سے ایک بکری پکڑ کر ”بسم اللہ“ کے بغیر ذبح کر لی تو وہ بکری حرام ہوگی۔ (۱)

(۱) یہ مسئلہ ”فتاویٰ ہندیہ“ میں بھی موجود ہے۔ جلد ۵، ص ۲۸۹۔

البتہ اس مسئلے پر اس عبارت سے اشکال پیدا ہوتا ہے جو بعض فقہاء نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ:

ولو أضجع إحدى الشاتين على الأخرى
تكفي تسمية واحدة إذا ذبحهما بإمرار
واحد- ولو جمع العصافير في يده فذبح
وسمى و ذبح آخر على أثره ولم يسم لم
يحل الثاني. ولو أمر السكين على الكل جاز
بتسمية واحدة- (۱)

اگر ایک بکری دوسری بکری کے اوپر لٹا دی تو اس صورت میں ایک ہی ”تسمیہ“ کافی ہوگی، بشرطیکہ ایک ہی مرتبہ چھری پھیرتے ہوئے دونوں کو ذبح کر دے۔ اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں بہت سی چڑیاں پکڑ لیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک کو ذبح کیا، اس کے فوراً بعد دوسری کو ذبح کر دیا اور دوسری پر ”بسم اللہ“ نہیں پڑھی تو یہ دوسری حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر تمام چڑیوں پر ایک ہی مرتبہ میں چھری پھیر دی تو پھر ایک ”بسم اللہ“ کے ساتھ سب حلال ہو جائیں گی۔

بعض اوقات یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث ”مشینی ذبح“ کا مسئلہ دو بکریوں کو ایک دوسرے پر لٹا کر ذبح کرنے اور ایک ہاتھ میں بہت سی چڑیاں پکڑ کر ان کو ایک مرتبہ میں ذبح کرنے کے مشابہ ہے، لہذا جس طرح مندرجہ بالا دو مسکلوں میں ایک ہی ”تسمیہ“ کافی ہے، اسی طرح ”مشینی ذبح“ میں بھی ایک ہی مرتبہ ”تسمیہ“ پڑھنا کافی ہونا چاہئے۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا زیر بحث مسئلہ مندرجہ بالا دونوں صورتوں پر منطبق نہیں ہوتا، اس لئے کہ ان دونوں مسکلوں کی صورت تو یہ ہے کہ ان میں دو بکریوں کا ذبح یا بہت سی چڑیوں کا ذبح ایک ہی مرتبہ میں ہو جاتا ہے اور ذبح اور تسمیہ کے درمیان معتدبہ فصل واقع نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مذکورہ بالا جزئیہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اگر ذبح کرنے والا بہت سی چڑیاں اپنے ہاتھ میں پکڑے اور پھر ”بسم اللہ“ پڑھنے کے بعد ایک چڑیا کو ذبح کرے اور پھر اس کے فوراً بعد دوسری چڑیا ذبح کرے تو یہ دوسری چڑیا حلال نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس چڑیا کا ذبح اس چڑیا سے منفصل ہو گیا جس کو پہلی مرتبہ میں ذبح کیا گیا۔

جہاں تک ہمارے زیر بحث مسئلے کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مرغیاں پورے ایک دن یا دو دن تک مشین کے ذریعہ ذبح کی گئیں وہ سب کی سب ایک ہی مرتبہ ذبح کر دی گئیں، بلکہ اس کے اندر ذبح کی بہت سی کارروائیاں ہوتی ہیں اور ہر کارروائی پہلی کارروائی کے بعد ہوتی ہے، لہذا دونوں صورتوں میں فرق واضح ہے۔

بہر حال! مندرجہ بالا تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک دن یا دو دن کی تمام مرغیوں کے ذبح کے لئے مشین اسٹارٹ کرنے والے کا صرف ایک مرتبہ ”تسمیہ“ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ گھومنے والی چھری کے پاس ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے، تاکہ جس وقت مرغی چھری کے پاس پہنچے اس وقت وہ ”تسمیہ“ پڑھے اور پھر چھری اس مرغی کی گردن کاٹ دے، یہ طریقہ میں نے کینیڈا کے ایک بذخ خانہ میں دیکھا ہے، اس طریقہ کار میں ”تسمیہ“ کے شرعاً معتبر ہونے میں کئی اشکالات ہیں۔

پہلا اشکال

پہلا اشکال یہ ہے کہ ”تسمیہ“ کا ذبح سے صادر ہونا ضروری ہے اور یہ شخص جو گھومنے والی چھری کے پاس کھڑا ہے، اس کا ذبح کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے کہ نہ تو اس نے مشین اسٹارٹ کی ہے اور نہ اس نے چھری گھمائی ہے۔ اور نہ ہی اس نے مرغی کو چھری کے قریب کیا ہے، بلکہ ذبح کی تمام کارروائی سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس کا ”تسمیہ“ ذبح کا تسمیہ نہیں ہے۔

دوسرا اشکال

دوسرا اشکال یہ ہے کہ گھومنے والی چھری کے پاس چند سیکنڈوں کے وقفہ سے بے شمار مرغیاں آتی ہیں اور اس چھری کے پاس کھڑے ہونے

والے شخص کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ آنے والی بے شمار مرغیوں میں سے ہر ایک پر کسی فصل کے بغیر بسم اللہ پڑھ سکے۔

تیسرا اشکال

تیسرا اشکال یہ ہے کہ مشین کے پاس کھڑا ہونے والا شخص انسان ہی تو ہے، وہ کوئی آٹومیٹک مشین نہیں ہے، اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ”تسمیہ“ پڑھنے کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہی نہ ہو، بعض اوقات اس کو ایسی ضروریات بھی پیش آئیں گی جو اس کو ”تسمیہ“ پڑھنے سے روک دیں گی، اور اوقات دسیوں مرغیاں گھومنے والی چھری پر گزر جائیں گی اور وہ ”تسمیہ“ کے بغیر ذبح ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں نے کینیڈا کے مذکورہ مذبح خانے میں خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ شخص مشین کے پاس سے کچھ کچھ وقفہ کے لئے چلا جاتا تھا اور بعض اوقات یہ وقفہ آدھا گھنٹہ اور اس سے بھی لمبا ہو جاتا تھا۔

پھر اس آٹومیٹک مشین پر ”تسمیہ“ پڑھنے کے سلسلے میں ایک قابل غور بات اور بھی ہے: وہ یہ کہ ہم مشین کے اشارت کرنے کے عمل کو شکاری کتے کو چھوڑنے پر قیاس کر لیں۔ کہ جس طرح وہاں پر شکار کو ہلاک کرنے کے وقت ”تسمیہ“ واجب نہیں ہے، بلکہ کتے کو چھوڑنے کے وقت ”تسمیہ“ پڑھنا واجب ہے، اور بعض اوقات کتا چھوڑنے میں اور شکار کو ہلاک کرنے کے درمیان طویل وقفہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات شکاری کتا ایک مرتبہ میں کئی جانور

شکار کر لیتا ہے، ظاہر ہے وہاں پر ایک ہی ”تسمیہ“ تمام جانوروں کے ہلاک ہونے کے لئے کافی ہو جاتی ہے، چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وإن سمى الصائد على صيد فأصاب غيره حل، وإن سمى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبح ما صاده به، لأنه لمّالِم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة ويحتمل أن يباح قياساً على مالو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقتة لا يقتضى اعتبار تعيين الآلة فلا يعتبر - (۱)

اگر شکار کرنے والے نے شکار پر ”تسمیہ“ پڑھی، پھر شکاری جانور نے اس خاص شکار کے بجائے دوسرے جانور کو شکار کر لیا تو یہ دوسرا جانور حلال ہوگا، اور ایک شخص نے ایک تیر پر ”تسمیہ“ پڑھی، پھر وہ تیر رکھ دیا اور دوسرا تیر اٹھایا اور اس کو شکار کی طرف چلا دیا تو

اس صورت میں وہ جانور مباح نہیں ہوگا، اس لئے کہ جب معین شکار پر ”تسمیہ“ پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس آلے کا اعتبار کیا جائے گا جس سے شکار کیا جائے گا، بخلاف ذبیحہ کے (کہ وہاں پر معین جانور پر ”تسمیہ“ پڑھنا ممکن ہے)۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مندرجہ بالا مسئلہ میں جانور کو مباح قرار دیا جائے۔ اس مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہ ایک شخص نے ایک چھری پر ”تسمیہ“ پڑھی پھر اس کو رکھ دیا اور دوسری چھری اٹھا کر ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور شکار میں مشقت کی وجہ سے تعین کا ساقط ہونا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آلہ کی تعین کا اعتبار کیا جائے، لہذا آلے کی تعین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا ساری تفصیل ذکاۃ اضطراریہ سے متعلق ہے، اور جبکہ ہمارا زیر بحث مسئلہ ذکاۃ اختیاریہ سے متعلق ہے اور حالت اختیاریہ کو حالت اضطراریہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن جب ہم اس طرف نظر کرتے ہیں کہ آج موجودہ دور میں تھوڑے وقت میں زیادہ پیداوار کی ضرورت پیدا ہوگئی ہے، اس لئے کہ آبادی زیادہ ہو چکی ہے، اور صارفین کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور ذبح

کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شریعت نے مشقت کی وجہ سے شکار میں تعین کو ساقط کر دیا ہے جیسا کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ظاہر ہے اور اس جیسی چیزوں میں شریعت کا حرج دفع کرنا معہود بھی ہے، یہ صورت حال بعض اوقات صرف ”تسمیہ“ کے مسئلے میں دفع حرج کے لئے اور لوگوں پر آسانی پیدا کرنے کے لئے حالت اختیار یہ کو حالت اضطرار یہ پر قیاس کرنے کے لئے وجہ جواز پیدا کرتی ہے، اور میں اس رائے پر زیادہ قوت کے ساتھ قطعی فیصلہ نہیں کرتا، لیکن میں اسے قطعی فیصلے کے لئے علماء کرام کے سامنے بحث کے لئے پیش کرتا ہوں، اور اب تک اس کا میں نے فتویٰ نہیں دیا، خاص کر اس وقت جبکہ ہمارے پاس اس گھومنے والی چھری کا مناسب متبادل طریقہ موجود ہے اور وہ متبادل طریقہ اتنے ہی وقت میں ضرورت کی پیداوار کو پورا کر دیتا ہے۔

وہ متبادل طریقہ یہ ہے کہ اس آٹومیٹک مشین میں جو چھری لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس جگہ پر چار مسلمان کھڑے کر دیئے جائیں اور جب لٹکی ہوئی مرغیاں ان کے پاس سے گزریں تو باری باری ایک ایک شخص بسم اللہ پڑھتے ہوئے مرغیوں کو ذبح کرتا رہے۔

یہ طریقہ جزیرہ ری یونین کے ایک بہت بڑے مذبح خانے کے حضرات کے سامنے بطور تجویز کے پیش کیا، چنانچہ انہوں نے اس تجویز پر عمل کیا، ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے پیداوار میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اسلئے کہ وہ چھری جتنے وقت میں جتنی مرغیاں کاٹ

رہی تھی وہ چار افراد بھی اتنے وقت میں اتنی ہی مرغیاں ذبح کر رہے تھے۔

اور یہ آٹومیٹک مشین بھی انسانی طاقت کے استعمال سے بالکل بے نیاز نہیں ہوتی، چنانچہ ہم نے اس کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ جن مقامات پر سے وہ لٹکی ہوئی مرغیاں گزرتی ہیں، ان میں سے بعض مقامات پر لوگوں کو کھڑا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں یا آلات کے ذریعے مرغیوں کے پیٹ سے آنتیں نکالتے ہیں۔ اور کوئی مذبح خانہ ایسا نہیں دیکھا جو اس جیسے انسانی عمل سے بالکل بے نیاز ہو، لہذا اگر اس جیسے کاموں کیلئے وہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ذبح کے عمل کے لئے بھی وہ چار افراد کو کھڑا کر سکتے ہیں، اس طرح شرعی طریقہ پر مسلمان ذبح کرنے والوں کے ہاتھوں سے ”تسمیہ“ کے ساتھ ان مرغیوں کا ذبح ہو جائے گا اور آگے کے باقی امور مشین انجام دے گی۔

جزیرہ ری یونین کے علاوہ میں نے جنوبی افریقہ کے شہر دربن کے قریب اس سے زیادہ بڑا مذبح خانہ دیکھا، جس کی یومیہ پیداوار ہزار ہا مرغیوں تک پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی یہ تجویز مانتے ہوئے اس کو شروع کر دیا اور اب کسی مشقت کے بغیر اس پر عمل کر رہے ہیں۔

اسی طرح جب میں نے کینیڈا کے مذبح خانہ کا معائنہ کیا تو ان کے سامنے بھی میں نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے مسلمانوں کے مطالبہ پر اس طریقے پر عمل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا

پڑ رہا ہے کہ وہاں کی ”جمعیت المسلمین“ جو اس بات کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ فلاں مذبح خانے کا گوشت حلال ہے، اس نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔

لہذا جب تک یہ متبادل طریقہ موجود ہے اس وقت تک اس مشینی چھری کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، اور اس متبادل طریقے کے ہوتے ہوئے ذکاۃ اختیار یہ کو ذکاۃ اضطراریہ پر قیاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

گرم پانی سے مرغی گزارنا

مشینی ذبح کا آخری مسئلہ ان مرغیوں کو گرم پانی سے گزارنے کا مسئلہ ہے، چنانچہ ان مرغیوں کو ”گھومنے والی چھری“ سے گزارنے کے بعد ان کو ایک ایسی جگہ سے گزارا جاتا ہے جہاں ان پر اوپر کی طرف سے گرم پانی گرایا جاتا ہے تاکہ اس سے مرغی کے پر جھڑ جائیں، البتہ اس گرم پانی پر دو اشکال پیدا ہوتے ہیں۔

ایک اشکال یہ ہے کہ اگر گھومنے والی چھری کے ذریعہ سے ان مرغیوں کی رگیں شرعی طریقے پر نہیں کٹیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر حیات باقی ہو، اور پھر جب ان کو گرم پانی سے گزارا گیا تو اب اس میں یہ احتمال ہے کہ ان مرغیوں کی موت اس گرم پانی کی وجہ سے واقع ہوئی ہو۔

دوسرا اشکال بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ ان مرغیوں کے پیٹ سے آنتیں اور گندگی نکالنے سے پہلے ہی ان کو گرم پانی سے گزارا جاتا ہے اور

بعض مرتبہ گرم پانی میں جوش دینے کی وجہ سے اس کی نجاستیں حیوان کے گوشت کے اندر سرایت کر جاتی ہیں، اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس قسم کا حیوان کبھی حلال نہیں ہوتا، چنانچہ درمختار میں ہے کہ:

و كذا دجاجة ملقاة حالة غلى الماء للنتف
قبل شققها۔

یہی حکم اس مرغی کا ہے جس کو شق کرنے سے پہلے ابلتے پانی میں ڈال دیا جائے۔

مندرجہ بالا عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں:

قال فى الفتح: إنها لا تطهر أبداً لكن على
قول أبى يوسف تطهر والعلة - والله أعلم۔

تشریحا النجاسة بواسطة الغليان - (۱)

فتح میں فرمایا کہ ایسی مرغی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق پاک ہو سکتی ہے، پاک نہ ہونے کی علت - واللہ اعلم یہ ہے کہ گرم پانی کے نتیجے میں نجاست گوشت کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔

لیکن مندرجہ بالا اشکال ہمارے زیر بحث مسئلہ پر وارد نہیں ہوتا، اس لئے کہ مرغی کو جس گرم پانی سے گزارا جاتا ہے اس کا درجہ حرارت ”جوش“ اور ”غلیان“ تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ سو درجہ حرارت سے کافی کم گرم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مرغی کو گرم پانی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں رکھا جاتا اور اتنی مدت نجاست کے گوشت میں سرایت کرنے کے لئے کافی نہیں۔ اور جن فقہاء نے اس مرغی کو نجس قرار دیا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ پانی اُبلنے کی حد تک گرم ہو اور اس پانی کے اندر مرغی اتنی دیر تک پڑی رہے کہ اس کے نتیجے میں نجاست گوشت کے اندر سرایت کر جائے، چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

وعليه اشتهران اللحم السميط بمصر
نجس لكن العلة المذكورة لا تثبت مالم
يمكث اللحم بعد الغليان زماناً يقع في مثله
التشرب والدخول في باطن اللحم، وكل
منهما غير متحقق في السميط حيث لا
يصل إلى حد الغليان - ولا يترك فيه إلا
مقدار ماتصل الحرارة إلى ظاهر الجلد
لتنحل مسام الصوف، بل لو ترك يمنع

انقلاع الشعر (۱)

اسی مسند کی بنیاد پر یہ مشہور ہے کہ مصر کا ”لمح سمیط“ ناپاک ہے، لیکن مذکورہ علت (غلیان کی وجہ سے نجاست کا گوشت کے اندر سرایت کرنا) اس وقت تک نہیں پائی جاسکتی جب تک وہ گوشت پانی میں جوش آنے کے بعد اتنی دیر تک اس پانی میں نہ پڑا رہے کہ اس کے نتیجے میں گوشت کے اندر تک وہ نجاست سرایت کر جائے، اور ”سمیط“ کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں، کیونکہ ایک تو وہ پانی ”غلیان“ کی حد تک گرم نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ گوشت کو اس پانی میں صرف اتنی دیر کے لئے رکھا جاتا ہے کہ اس پانی کی حرارت اس کی ظاہری کھال تک پہنچ جائے، تاکہ اس کی کھال کے مسامات کھل جائیں، کیونکہ اگر اس کو پانی میں نہ ڈالیں بلکہ ویسے ہی چھوڑ دیں تو اس کے پر اور بال نہیں اکھاڑے جاسکیں گے۔

مندرجہ بالا صورت اس گرم پانی پر پوری طرح صادق آتی ہے جس پانی سے مرغیوں کو اس مشینی ذبح کے عمل کے دوران گزارا جاتا ہے، اور میں

نے خود اس پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے تو وہ پانی غلیان اور جوش کی حد تک پہنچنا تو دور کی بات ہے اس پانی میں تو ہاتھ بھی نہیں جل رہا تھا۔

مرغی کے مشینی ذبح کی مندرجہ بالا بحث کے نتائج

اوپر ہم نے مرغی کے مشینی ذبح کا جو تفصیلی طریقہ بیان کیا ہے اس میں شرعی نقطہ نظر سے مندرجہ ذیل خرابیاں موجود ہیں۔

﴿۱﴾ پہلی خرابی

بعض مذبح خانوں میں ذبح سے پہلے مرغیوں کو بجلی کے کرنٹ والے ٹھنڈے پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے، جس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ذبح سے پہلے ہی اس کی موت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس کرنٹ کے نتیجے میں ۹۰٪ فیصد مرغیوں کے دل کی حرکت رک جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿۲﴾ دوسری خرابی

اکثر اوقات تو اس مشین میں لگی ہوئی گھومنے والی چھری مرغی کی گردن کی رگوں کو کاٹنے کے لئے کافی ہو جاتی ہے، البتہ بعض اوقات اس مرغی کی گردن اس چھری تک پوری طرح نہیں پہنچ پاتی، جس کے نتیجے میں یا تو مرغی کا گلا بالکل نہیں کٹتا، یا تھوڑا بہت کٹ جاتا ہے اور کچھ رگیں کٹنے سے رہ جاتی

ہیں۔

﴿۳﴾ تیسری خرابی

اس چھری کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مرغی پر ”تسمیہ“ پڑھی جاسکے، اور مشین اشارت کرتے وقت ”تسمیہ“ پڑھنا یا چھری کے پاس کھڑے ہونے والے شخص کا ”تسمیہ“ پڑھنا شرعی تقاضہ کو پورا نہیں کرتا۔

﴿۴﴾ چوتھی خرابی

جس گرم پانی سے مرغیوں کو گزارا جاتا ہے، اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جن مرغیوں کی گردن بالکل نہیں کٹیں یا جن کی ناقص کٹی ہیں، اس پانی میں سے گزارنے کی وجہ سے ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔

مندرجہ بالا چار خرابیوں میں غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان خرابیوں کو دور کرنا مشکل نہیں ہے، اور اس مشینی ذبح کے طریقہ کار میں تھوڑی سی ترمیمات سے اس کو شریعت کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ اور وہ ترمیمات مندرجہ ذیل ہیں:

پہلی ترمیم

پہلی ترمیم یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی میں بجلی کا کرنٹ نہ چھوڑا جائے، یا اس بات کا یقین حاصل کر لیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اس مرغی کے دل کی

حرکت بند نہ ہو جائے۔

دوسری ترمیم

اس مشین سے چھری نکال دی جائے اور اس کی جگہ پر چند مسلمان یا اہل کتاب کھڑے کئے جائیں اور جب مرغیاں ان کے سامنے سے گزریں تو ان میں سے ہر ایک باری باری ہر مرغی پر ”تسمیہ“ پڑھتے ہوئے ان کو ذبح کرے، جس کا تفصیلی طریقہ میں نے پیچھے عرض کر دیا، اور مسلمانوں کے مطالبہ کرنے پر بڑے بڑے مذبح خانوں کے حضرات نے اپنے ہاں یہ طریقہ جاری کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پیداوار کی تعداد میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

تیسری ترمیم

اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ جس گرم پانی سے مذبوحوہ مرغیوں کو گزارا جاتا ہے وہ ”غلیان“ کی حد تک گرم نہ ہو۔
مندرجہ بالا تین ترمیمات کے بعد مشین سے ذبح شدہ مرغیاں حلال ہوں گی۔

چوپاؤں کا مشینی ذبح

جہاں تک چوپائے یعنی گائے اور بکری جیسے بڑے جانوروں کے مشین سے ذبح کا تعلق ہے تو اس کا طریقہ مرگی کے ذبح کے طریقے سے مختلف ہے، اس میں مشینی چھری کے ذریعہ جانور کی روح نہیں نکالی جاتی، بلکہ ایسے اعمال کے ذریعہ اس کی روح نکلتی ہے جس کو انسان انجام دیتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل ”دم گھوٹنا“ ہے، چنانچہ آج کل ذبح کے جس طریقے کو ”انگریزی طریقہ“ کہا جاتا ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے، اس طریقے میں دو پسیلوں کے درمیان سے سینہ چاک کیا جاتا ہے اور اس میں ہوا بھری جاتی ہے، حتیٰ کہ پمپ کے ہوا کے دباؤ کی نتیجے میں اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور اس عمل کے ذریعے اس کا خون بالکل خارج نہیں ہوتا۔ یہ بدیہی بات ہے کہ اس طریقہ سے ذبح شدہ حیوان ”منخنقہ“ میں داخل ہے جس کی حرمت قرآن کریم میں منصوص ہے۔ اور ہم نے پیچھے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ”حنق“ حیوان کے گوشت کو حرام کر دیتا ہے، چاہے یہ ”حنق“ مسلمان سے صادر ہو یا کتابی سے صادر ہو۔ لہذا اس طریقے سے ”منخوق“ شدہ حیوان کی حلیت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

لیکن آج کل اکثر ذبح خانوں میں گلے کے ایک حصے کو کاٹ کر یا گردن کو کاٹ کر اور اس کا خون بہا کر ذبح کا عمل مکمل کیا جاتا ہے، مگر چونکہ

حیوان کو زخمی کرنے کے متعدد طریقے رائج ہیں، اس لئے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا ان کے ذریعہ رگیں کٹ جاتی ہیں یا حیوان کو گردن کے علاوہ دوسری جگہ سے کاٹا جاتا ہے، اور جانور اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے گلے کی تمام رگیں کاٹ دی گئی ہیں جن کا کاٹنا شرعاً واجب ہے۔ البتہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ حیوان کو شرعی طریقے پر اس کی تمام رگیں کاٹ کر ذبح کرے۔

لیکن ان مذبح خانوں کے ذبیحہ میں محل بحث بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ذبح کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے یا تو جانور کو بے ہوش کریں یا اس کو سُن کر دیں، اور ان کی نظر میں ذبح کے وقت جانور کی بے ہوشی کا یہ عمل حیوان کو راحت پہنچانے کے لئے اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے واجب ہے، اور وہ لوگ حیوان کے مقید ہونے کی حالت میں اس کو روکنے کے لئے اور اس کی گردن کو سہولت کے ساتھ ذبح کرنے والے کے قریب لانے کے لئے بے شمار آلات استعمال کرتے ہیں۔

جانور کو بے ہوش کرنے کے طریقے

ذبح کرنے سے پہلے جانور کو مختلف طریقوں سے بے ہوش کیا جاتا

ہے:

۱۔ پہلا طریقہ جو بکثرت اختیار کیا جاتا ہے، وہ پستول کے ذریعہ بے

ہوش کرنا ہے، البتہ یہ پستول گولی چلانے والی پستول نہیں ہوتی، بلکہ اس پستول کو چلانے سے اس میں سے ایک سوئی یا دھات کی سلاح نکلتی ہے، اس پستول کو اس جانور کی پیشانی کے بیچ میں رکھ کر چلایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں سے سوئی یا سلاح نکل کر اس جانور کے دماغ میں سوراخ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جانور اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔

۲۔ بے ہوش کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حیوان کی پیشانی پر ایک بڑا بھاری ہتوڑا مارا جاتا ہے۔ (جس کے نتیجے میں وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے) چونکہ یہ طریقہ حیوان کے لئے تکلیف دہ ہے، اس لئے اکثر مذبح خانوں میں یہ طریقہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بدلے ”پستول“ والا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

۳۔ بے ہوش کرنے کا تیسرا طریقہ ”گیس“ کا استعمال ہے، اس طرح کہ حیوان کو ایسی جگہ پر بند کر دیا جاتا ہے جہاں خاص مقدار میں دوسری کاربن آکسائیڈ ہوتی ہے، اور یہ گیس اس جانور کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے بعد اس کو ہاتھ سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔

۴۔ بے ہوش کرنے کا چوتھا طریقہ ”کرنٹ کے جھٹکے“ کا استعمال ہے، وہ اس طرح کہ چمپنی کی طرح کا ایک آلہ حیوان کے دونوں کانوں پر رکھا جاتا ہے اور اس آلے سے بجلی کا کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جو اس کے دماغ تک پہنچ

جاتا ہے، چنانچہ وہ جانور اس کرنٹ کے جھٹکے کی وجہ سے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔

جانور کو بے ہوش کرنے کا شرعی حکم جاننے کے لئے اس پر دو جہت سے کلام کرنا ضروری ہے، اولاً: کیا اس طریقہ کو اختیار کرنا شرعاً جائز ہے؟ ثانیاً: اگر بے ہوش کرنے کے بعد مسلمان یا کتابی اس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کر دے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا یا نہیں؟

جہاں تک اس طریقے کے شرعاً جائز ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے سے جانور کی ذبح کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف حدیث میں حیوان کو ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ

فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ

وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ - (۱)

(۱) صحیح مسلم کتاب الصيد، باب الأمر با حسن الذبح والقتل، حدیث نمبر ۱۹۵۵- ترمذی کتاب الذیات، باب النہی عن المثلۃ و ابوداؤد، والنسائی (دیکھئے: جامع الاصول، ج ۴، ص ۴۸۱-

جب تم (کسی کافر کو) قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم (کسی جانور کو) ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اپنی چھری تیز کر لو اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ۔

اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ شریعت اسلام نے ذبح حیوان کا جو طریقہ جاری فرمایا ہے کہ اس کی گردن کی تمام رگیں کاٹ دی جائیں، یہ طریقہ حیوان کی روح نکالنے کے لئے بہت اچھا اور حیوان کے لئے بہت آسان اور سہل ہے۔ جہاں تک بے ہوشی کے عمل کا تعلق ہے تو یہ بعض حالات میں حیوان کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اور ذبح کی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسا کہ بے ہوش کرنے کے لئے اس کی پیشانی پر ہتوڑا مارنا، اس لئے بلاشبہ یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں۔ البتہ بیہوش کرنے کے جو دوسرے طریقے ہیں، ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے حیوان کی ذبح کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے، اس لئے کہ حیوان کی پیشانی پر پستول چلانے سے اس کو شدید چوٹ لگتی ہے، اور کرنٹ کا جھٹکنا بھی تکلیف سے خالی نہیں، اور حیوان کو گیس کے اندر محبوس کرنا حیوان کے سانس گھٹنے کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ”علم حیوان“ کے ماہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ طریقے اس کی ذبح کی تکلیف کو کم کر دیتے ہیں، لہذا اگر یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ ان کی وجہ سے اس کی ذبح کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور ان افعال کے نتیجے میں اس حیوان کی موت بھی

واقع نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان طریقوں کو اختیار کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔

بیہوشی کے بعد ذبح کئے گئے جانور کا حکم

جہاں تک اس جانور کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق ہے جس کو بیہوش کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا ہے، یہ حکم اس پر موقوف ہے کہ آیا بیہوش کرنے کا یہ عمل اس حیوان کی موت کا سبب بنتا ہے یا نہیں؟ تو آج کل ماہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عمل موت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس عمل کے ذریعہ وہ جانور ہوش و حواس گم کر دیتا ہے اور تکلیف کا احساس اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن ماہرین کا یہ دعویٰ محل نظر ہے، کیونکہ جہاں تک ”پستول“ کے ذریعہ بیہوش کرنے کا تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے حیوان کی پیشانی اور اس کے دماغ میں سخت چوٹ لگتی ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہو۔ لہذا ایسا جانور ”موقوذہ“ ہو جائے گا۔ میں نے خود بیہوش کرنے کے طریقے کا امریکہ کے شہر ”ڈیٹرائٹ“ میں مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ ”پستول“ سے تقریباً ایک انچ کے برابر سلاح نکلی اور گائے کے دماغ میں داخل ہو گئی اور اس کے دماغ سے خون نکلنے لگا اور وہ گائے فوراً زمین پر گر گئی اور اس کے اعضاء کی حرکت بالکل بند ہو گئی جیسے کہ وہ مر چکی

لیکن اس مذبح خانے کے امریکی مالک نے بتایا کہ پستول چلانے کے بعد بھی چند منٹ تک حیوان زندہ رہتا ہے، اور اگر بارہ منٹ کے اندر اس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ان مذبح خانوں کے سرکاری سپروائزر سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی، اس وقت انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے بیہوش کرنے کی صورت میں دو احتمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس عمل کے چند منٹ بعد وہ جانور مر جاتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ جانور اپنے ہوش و حواس کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور اس سپروائزر نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بیہوش کرنے کا یہ عمل لگاتار چند جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح ذبح کا عمل بھی لگاتار کیا جاتا ہے، لہذا یہ بعید نہیں ہے کہ جب بے شمار جانوروں کو ایک ساتھ بیہوش کیا گیا ہو تو ان کو ذبح کرنے سے پہلے ہی کسی جانور کی موت واقع ہو چکی ہو، اور ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم یہ معلوم کریں کہ ذبح کے وقت یہ جانور زندہ ہے۔

بہر حال! میرے لئے اس سپروائزر کی بات پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو صورت حال میں نے دیکھی ہے، اس نے مجھے ان کے اس دعویٰ میں شک میں ڈال دیا ہے کہ بیہوش کرنے کے اس عمل کے سبب اس جانور کی موت واقع نہیں ہوتی، اور اس بات کا احتمال تو بعید نہیں ہے کہ اس شدید صدمہ کی وجہ سے بعض جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہو۔

جہاں تک بجلی کے کرنٹ کے ذریعہ بیہوش کرنے کا تعلق ہے، تو بعض

ماہرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعض حالات میں اس کی وجہ سے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ”گیس“ کے ذریعہ بیہوش کرنے کے عمل میں اگر گیس کا تناسب زیادہ ہو جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ جانور کی موت واقع ہو جائے۔

بہر حال! یہ موضوع دیندار غیرت مند اور اس فن کے ماہر مسلمانوں کے عمیق غور و خوص کا محتاج ہے۔ چونکہ یہ موضوع میرے دائرہ اختیار سے خارج ہے، اس لئے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا میرے لئے مناسب نہیں، البتہ میں اکیڈمی کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ماہرین کی ایک کمیٹی بنا لے، وہ کمیٹی اس موضوع پر مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ اکیڈمی کو پیش کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہوش کرنے کے مندرجہ بالا طریقے اگر جانور کی موت واقع ہونے کا سبب بنتے ہیں، یا ان طریقوں کے اختیار کرنے سے جانور کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تب تو ان طریقوں کو اختیار کرنا جائز نہیں، اور بیہوش کرنے کے بعد ذبح کئے گئے جانور کو حلال نہیں کہا جائے گا اور جب تک یہ طریقے مشکوک ہیں، اس وقت تک ان سے دور رہنا ہی مناسب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ”یہود“ بیہوش کرنے کے کسی طریقے کو قبول نہیں کرتے، پھر تو مسلمانوں کو شبہات سے اور زیادہ دور رہنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لَئِنِ اسْأَلْتُمُونِي عَنِ السَّعْيِ
فَعَلَيْكُمْ عِلْمُ السَّاعِي عَنِ السَّعْيِ
وَأَنزِلُوا إِلَيَّ الْوَحْيَ وَالْحَقَّ
قُلْ لَئِنِ اسْأَلْتُمُونِي عَنِ السَّعْيِ
فَعَلَيْكُمْ عِلْمُ السَّاعِي عَنِ السَّعْيِ
وَأَنزِلُوا إِلَيَّ الْوَحْيَ وَالْحَقَّ

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت


کا حکم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم



ضبط و ترتیب
محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز



لا اله الا الله محمد رسول الله

دوسرے ممالک سے درآمد کئے ہوئے گوشت کا حکم

آج بازار غیر مسلم ممالک مثلاً انگلینڈ، امریکہ، ہالینڈ، اسٹریلیا اور برازیل وغیرہ سے درآمد شدہ گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ پیچھے دلائل سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آچکی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے اس وقت حلال ہے جب وہ لوگ ذبح کی شرعی شرائط کی رعایت کریں۔ اور جس زمانے میں قرآن کریم نے ان کے ذبیحہ کو مسلمانوں کے لئے مباح قرار دیا تھا اس وقت ان کے ذبیحہ میں یہ بات موجود تھی، جہاں تک (موجودہ دور کے) یہودیوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی گوشت کے سلسلے میں اپنے مذہب کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علماء کی نگرانی میں اپنے لئے علیحدہ مذبح خانے بنائیں اور اپنے گوشت کو ”کوشر“ نام کے ذریعہ ممتاز کرتے ہیں اور جہاں یہودیوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں یہ گوشت آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔

جہاں تک (موجودہ دور کے) نصاریٰ کا تعلق ہے، وہ تو ذبح کے سلسلے میں تمام شرعی شرائط اور پابندیوں کا طوق اتار کر بالکل آزاد ہو چکے ہیں، چنانچہ آج ذبح کے سلسلے میں یہ لوگ ان احکام کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں جو آج بھی ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں (جیسا کہ ان کی کتابوں کی

بعض عبارات ہم نے پیچھے بیان کیں) ان حالات میں ان کا ذبیحہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کسی جانور کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں انہوں نے تمام شرعی شرائط کا لحاظ کیا ہے۔ بہر حال! وہ گوشت جو آج مغربی ممالک کے بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے اور جو گوشت ”اسلامی ممالک“ میں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال سے روکنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ذبح کرنے والے کے مذہب کے بارے میں پتہ چلانا مشکل ہے، کیونکہ ان ممالک میں بت پرست، آتش پرست، دہریے، اور مادہ پرست بھی بکثرت آباد ہیں، لہذا یہ یقین حاصل کرنا مشکل ہے کہ جس جانور کا گوشت بازار میں فروخت ہو رہا ہے اس کا ذبح کرنے والا ”اہل کتاب“ ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق سے یا غالب آبادی پر حکم لگانے کی وجہ سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ذابح نصرانی ہے، پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ فی الواقع وہ نصرانی ہے یا وہ اپنے عقیدے میں خدا کا منکر اور مادہ پرست ہے۔ ہم پیچھے تفصیل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آج نصرانیوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس کائنات کے لئے خدا کے وجود کی منکر ہے (معاذ اللہ) لہذا ایسی صورت میں وہ ذابح فی الواقع نصرانی نہ ہوا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق یا ظاہر حال پر حکم لگانے کی وجہ سے یہ

ثابت بھی ہو جائے کہ وہ ذابح نصرانی ہے، تب بھی نصرانیوں کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت شرعی طریقہ اختیار کرنے کا التزام نہیں کرتے، بلکہ بعض نصرانی تو جانور کو گلا کھونٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں اور بعض جانور کی رگیں کاٹے بغیر ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں اور بعض نصرانی جانور کو بیہوش کرنے کے لئے وہ مشتبہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

۳۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ نصاریٰ ذبح کے وقت تسمیہ نہیں پڑھتے۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہ بات راجح ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے بھی ذبح کے وقت ”تسمیہ“ شرط ہے۔

بہر حال! ممانعت کی مندرجہ بالا وجوہ قویہ کی وجہ سے کسی مسلمان کے لئے مغربی ممالک کے بازاروں میں فروخت ہونے والے گوشت کو کھانا جائز نہیں جب تک کسی معین گوشت کے بارے میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گوشت ذکاۃ شرعی کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکار کو کھانے سے منع فرمایا جس شکار میں شکاری کے کتے کے علاوہ دوسرا کتا بھی شامل ہو جائے۔

اسی طرح ایک حدیث میں شکار کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك

لا تدرى الماء قتله أو سهمك - (۱)

یعنی اگر تم اپنے شکار کو پانی میں غرق پاؤ تو اس شکار کو مت کھاؤ، اس لئے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جانور پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے مرا ہے یا تمہارے تیر سے مرا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جانور میں حلت اور حرمت دونوں وجہیں پائی جائیں تو جانب حرمت کو ترجیح ہوگی۔ یہ حدیث بھی اس اصول پر دلالت کرتی ہے کہ گوشت کے اندر اصل ”حرمت“ ہے جب تک یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے۔ یہ اصول کئی فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔

یہی حکم مغربی ممالک سے امپورٹ شدہ گوشت کا ہے، کیونکہ اس میں ممانعت کی مندرجہ بالا چاروں وجوہات پائی جاتی ہیں، جہاں تک اس شہادت کا تعلق ہے جو گوشت کے ڈبے پر اور یا اس کے کارٹن پر لکھی ہوتی ہے کہ:

انها مذبوحة على الطريقة الاسلامية -

یعنی یہ گوشت اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے۔

بہت سے بیانات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس ”شہادت“ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ سعودی عرب کی ”ہیئۃ کبار العلماء“ نے اپنے نمائندے ان غیر ملکی مذبح خانوں میں بھیجے جہاں سے اسلامی ممالک کو گوشت بھیجا جاتا ہے، چنانچہ ان نمائندوں نے ان مذبح خانوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی جو رپورٹیں پیش کی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ڈبوں اور کارٹنوں پر جو ”شہادت“ درج ہوتی ہے اس پر بالکل اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ”فتاویٰ ہیئۃ کبار العلماء“ میں غیر مسلم ممالک سے امپورٹ شدہ گوشت کے بارے میں جو ”قرارداد“ منظور کی گئی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے:

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کے بارے میں ”ہیئۃ کبار العلماء“ کی قرارداد

امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو گوشت ”سعودی عرب“ میں ”امپورٹ“ کیا جاتا ہے اس پر کوئی حکم لگائے بغیر صرف جانور ذبح کر دینے کا شرعی طریقہ بیان کر دینے سے اس شخص کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو حلال کھانے کی فکر کرتا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جن غیر مسلم ممالک سے سعودی عرب میں گوشت امپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں کی کمپنیوں کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہاں پر کس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے والے کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن عام مسلمان یہ سب معلومات کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ اس لئے کہ ان ممالک کی مسافت بعیدہ کی وجہ سے ان کی طرف سفر میں بڑی

مشقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ان ممالک کا سفر کرتے ہیں اور جو لوگ وہاں کا سفر کرتے ہیں، ان میں سے اکثر یا تو علاج کی غرض سے سفر کرتے ہیں یا (کمانے کی) خواہشات کی تکمیل کے لئے یا معلومات حاصل کرنے کے لئے وہاں کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لئے کوئی سفر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی تفتیش کے لئے اور اس کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔

اس لئے ”ادارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد کے صدر دفتر کی طرف سے ایک خط ان اداروں کے ذمہ داروں کی طرف لکھا گیا جو گوشت اور کھانے کی دوسری اشیاء سعودی عرب میں درآمد کرتے ہیں، جس میں ان اداروں سے حقیقت حال پوچھی گئی اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ دینی اور شرعی نقطہ نظر سے ان امپورٹ شدہ گوشت کا خاص خیال رکھیں تاکہ مسلمانوں کو ان کھانوں سے بچایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

ان اداروں کی طرف سے جو جواب آیا وہ بہت مجمل تھا، جس سے نہ تو اطمینان قلب حاصل ہو سکتا تھا اور نہ ہی شک دور ہو سکتا تھا۔ لہذا اس ادارے نے یورپ اور امریکہ میں اپنے نمائندوں کو خط لکھا کہ وہ ان مذبح خانوں میں ذبح کی کیفیت اور ذبح کرنے والوں کی دیانت کے بارے میں تحقیق کر کے اطلاع دیں، چنانچہ اس خط کے جواب میں بعض نے اجمالی جواب لکھ کر بھیج دیا، لیکن بعض غیرت مند حضرات نے اس کے بارے میں

رسالہ کی صورت میں ذبح کی کیفیت اور ذبح کرنے والوں کی دیانت کے بارے میں تفصیل سے جواب لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزاء خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن ان جوابات میں ان تمام غیر ملکی کمپنیوں کا احاطہ نہیں کیا گیا جو کمپنیاں سعودی عرب میں گوشت ایکسپورٹ کرتی ہیں اور جن کمپنیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ان میں سے بعض کے بارے میں اجمالاً بیان کیا گیا۔ بہر حال! کمیٹی کو جو رپورٹیں موصول ہوئیں اور رسائل کے ذریعہ اسے جو معلومات حاصل ہوئیں، اور ذبح کرنے کا شرعی طریقہ جس کا بیان اوپر آچکا اور اس بحث سے متعلق جو فتوے جاری ہوئے، ذیل میں ان سب کا خلاصہ کمیٹی پیش کرتی ہے تاکہ درآ مد شدہ گوشت کا حکم واضح ہو جائے۔

خلاصہ

اولاً : رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری کا جو خط ”ادارات البحوث العلمیة والافتاء“ کے رئیس عام کے پاس آیا، جس میں یہ بات تحریر تھی کہ ان کے پاس یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ ”آسٹریلیا“ کی بعض کمپنیاں جو اسلامی ممالک کو گوشت برآمد کرتی ہیں، خاص طور پر ”الحلال الصادق“ کمپنی جس کا مالک ایک قادیانی ”حلال الصادق“ ہے، یہ کمپنیاں گائے، بکریاں اور پرندے ذبح کرنے میں اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرتی ہیں، اور ان کمپنیوں کے ذبح شدہ جانوروں کا کھانا حرام ہے، اور ”رابطہ عالم اسلامی“ نے اپنی کتاب میں جو قرار داد اور سفارش پیش کی ہے، اس کی

رعایت ضروری ہے۔

ثانیاً: استاذ شیخ احمد بن صالح محاری کی طرف سے ”فرانس“ کی کمپنی ”بریسس“ کے طریقہ ذبح کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے کہ اس کمپنی میں ذبح کرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے یا کتابی ہے یا بت پرست ہے یا ملحد ہے، اور اس میں شک رہتا ہے کہ مذبحہ جانور کی دورگیں کئی ہیں یا ایک رگ کٹی ہے، اور اس گوشت کے حلال ہونے کی تصدیق کرنے والے کی گواہی نہ تو ذبح کے عمل کو بذات خود مشاہدہ کرنے پر مبنی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے نائب کے مشاہدہ پر مبنی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی شہادت ذبح کرنے والے کو جاننے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں اس کمپنی کے ذبح شدہ جانوروں کو کھانا جائز نہیں، اور اس کمپنی کے غیر شرعی تذکیہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ اگر در آمد کرنے والے ملک پہلے سے گوشت کی یقینی مقدار ہمیں بتادیں تو ہم شرعی طریقے پر ذبح کرنے کے لئے موجودہ ذبح کے طریقے میں تبدیلی کر لیں گے۔

ثالثاً: استاذ احمد بن صالح محاری کی طرف سے (سادیا اویسہ) کمپنی کے متعلق گائے اور مرغی کے ذبح کے طریقہ کار کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں ذابح کی دیانت مشکوک ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ ذابح کتابی ہے یا بت پرست ہے۔ دوسرے یہ کہ گائے کو پہلے بجلی کے کرنٹ کے ذریعہ بیہوش کیا جاتا ہے، جب وہ گائے بیہوش ہو کر گر جاتی ہے تو اس کو مشینوں کے

ذریعہ پاؤں کی طرف سے بلند کیا جاتا ہے، پھر چھری کے ذریعہ اس کی گردن کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر دوسری چھری کے ذریعہ اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا خون بڑی مقدار میں خارج ہو جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کمپنی کے مذبحہ جانور کھانا جائز نہیں۔ (۱)

رابعاً: شیخ عبداللہ الغضیہ کی طرف سے لندن میں ذبح کے طریقہ کار کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پر ذبح کرنے والے دین سے منحرف نوجوان، بت پرست اور دہریے ہیں۔ ذبح کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرغی کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، جب وہ مشین سے باہر نکلتی ہے تو وہ مردہ حالت میں ہوتی ہے اور تمام پر اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا سر کٹا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی گردن پر ذبح کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، خود مذبح کے انگریز مالک نے بھی ان باتوں کا اقرار کیا۔

اور مذبح خانے کا عملہ یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس خود کار مشین کے ذریعہ ہونے والے ذبح کے طریقے کو دیکھنا چاہے جس کے ذریعہ ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت برآمد کیا جاتا ہے تو اس شخص کو وہ مذبح خانہ دکھا دیا جاتا ہے جس میں چند مسلمان اندرون ملک رہنے والے مسلمانوں کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یہ بات ذبح کے طریقے اور ذبح کرنے والے کی دیانت میں شک ڈال دیتی ہے، اس لئے اس کمپنی کے ذبح شدہ جانوروں کو کھانا حلال نہیں۔

خامساً: استاد حافظ کی طرف سے یونان کے بعض مشہور مقامات کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر بڑے جانوروں کو سروں پر پستول کے ذریعہ مار کر پہلے انہیں گرایا جاتا ہے اور پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے، چونکہ ایسے جانور میں یہ شک رہتا ہے کہ ذبح کا عمل اس کی موت کے بعد ہوا یا پہلے ہوا، اس لئے ایسے جانور کو کھانا جائز نہیں۔ وہاں پر ذبح کا ایک اور طریقہ بھی رائج ہے، جس کے بارے میں رپورٹ بھیجئے والے کا کہنا یہ ہے کہ وہ طریقہ اسلامی طریقہ کے مطابق ہے، البتہ رپورٹ بھیجئے والے نے نہ تو ذبح کی کیفیت بیان کی ہے اور نہ ہی ذابح کی دیانت کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، اسی طرح نہ تو ذبح کرنے کی جگہ کے بارے میں بیان کیا ہے اور نہ ہی ذبح کرنے والی کمپنیوں کا ذکر کیا ہے۔

سادساً: ہمیں شیخ عبدالقادر ارنادوط کی طرف سے یوگوسلاویہ میں ذبح کے طریقہ کے بارے میں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ یوگوسلاویہ کے دیہاتوں میں اور سرا یوشہر میں اسلامی طریقے پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذابح بھی مسلمان ہوتا ہے، لہذا ان جانوروں کو کھانا جائز ہے۔ لیکن یوگوسلاویہ کے دوسرے شہروں میں جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں، ان میں ذبح کرنے والا غیر مسلم ہوتا ہے، جو ظاہراً تو کتابی یا شیعہ ہوتا ہے لیکن حقیقتہ الامر میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ذابح کی اہلیت میں شک کی وجہ سے یوگوسلاویہ کے دوسرے شہروں کے ذبیحہ جانور کو کھانا جائز نہیں۔

سابعاً: مغربی جرمنی میں ذبح کے طریقے کے بارے میں ڈاکٹر طباع

نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے گائے کے سر میں پستول ماری جاتی ہے اور پھر اس گائے کی موت واقع ہونے کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ لہذا ان ذبائح کو کھانا جائز نہیں۔

ثامناً: رسالہ ”المجتمع“ میں ڈنمارک میں ذبح کے طریقے کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ذبح کرنے والے عیسائیوں کی بنسبت شیوعیین اور بت پرستوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور یہ کہ کمپنی کو اسلامی ذبح کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ جو باتیں افواہوں کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں، لہذا کمپنی کے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلامی ذبح کے طریقے کا خیال رکھے اور یہ کہ وہ گوشت کے پیکٹ پر یہ عبارت لکھ دے کہ (ذبح علی الطريقة الاسلامیة) ”اس کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے“۔ گوشت درآمد کرنے والے یہ جملہ اس لئے لکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی تصدیق کر دے جس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، کمپنی کے لوگ اس شخص کو ذبح کی کیفیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتے ہیں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اور استاذ احمد صالح محازی کے واسطے سے محمد الأیض المغربی کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جو ڈنمارک میں گوشت کو پیک کرنے کا کام کرتا ہے، وہ یہ کہ پیکنگ پر جو یہ عبارت لکھتے ہیں کہ ”ذبح علی الطريقة الاسلامیة“ یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ جانور کا قتل ہر حالت

میں بجلی کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے۔ بہر حال! مندرجہ بالا دونوں رپورٹوں کی بنیاد پر ڈنماک سے درآمدہ گوشت کھانا جائز نہیں۔

تاسعاً: علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول بیان کیا گیا کہ جس چوپائے اور پرندے وغیرہ کو اہل کتاب نے ذبح کیا ہو، اس کا کھانا مطلقاً حلال ہے، اگرچہ ان کے ذبح کا طریقہ ہمارے طریقے کے موافق نہ ہو۔ اور یہ کہ ہر وہ چیز جس کو وہ اپنے مذہب میں حلال سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لئے بھی حلال ہے، سوائے اس چیز کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ ذبح کا جو طریقہ اور جو فتاویٰ بیان ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کا یہ قول مردود ہے۔

عاشراً: ذبح کرنے کا طریقہ اور ذبح کرنے والے کی دیانت کے بارے میں جو تفصیل اوپر بیان ہوئی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وزارت تجارت و صنعت کی طرف سے ایوان صدارت جو تحریر بھیجی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ ”برآمد شدہ گوشت حلال ہے“ یہ تحریر کے اطمینان کے لئے کافی نہیں، بلکہ دلوں میں خلجان باقی رہتا ہے کہ یہ ذبائح اسلامی طریقہ ذبح کے موافق ہیں یا نہیں؟ اور گوشت کے اندر اصل ”حرمت“ ہے، لہذا اس مشکل کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔

برآمد شدہ گوشت کی مشکل کا حل

اس حل کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

﴿۱﴾..... زیادہ سے زیادہ جانوروں کو پالا جائے اور ان کی نشوونما کا اہتمام کیا جائے، اور جس مقدار میں جانوروں کی ضرورت ہو، اتنی مقدار میں زندہ جانور ”سعودی عرب“ میں درآمد کئے جائیں، اور پھر یہاں پر ان کے چارہ کے مہیا کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے اور ”ملک“ کے اندر ہی ان کی نشوونما اور ذبح کے لئے مناسب جگہ تیار کی جائے۔ اور جانوروں کو پالنے اور ان کو ذبح کرنے کا کام کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لئے ان کی مدد کی جائے اور جانوروں کی ترسیل کے طریقے آسان کئے جائیں۔

اور یہی آسانیاں اور سہولتیں پنیر بنانے کے کارخانے قائم کرنے اور گوشت کو پیک کرنے، تیل، گھی اور دوسرے تمام تیل بنانے کے کارخانے قائم کرنے والوں کو دی جائیں۔

﴿۲﴾..... جن ممالک سے سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ملکوں کو گوشت درآمد کیا جاتا ہے، انہی ممالک میں ایسے مذبح خانے قائم کئے جائیں جن میں کام کرنے والے مسلمان ہوں اور وہاں پر جانور ذبح کرنے کے لئے شرعی طریقے کی رعایت رکھی جائے۔

﴿۳﴾..... غیر مسلم ممالک کی وہ کمپنیاں جو سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک کو گوشت برآمد کرتی ہیں، ان میں مسلمان، امانتدار اور شرعی طریقے پر جانور ذبح کرنے کے طریقے کو جاننے والے لوگ مقرر کئے

جائیں، یہ لوگ اتنے جانور ذبح کر سکیں جتنے سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک کو ضرورت ہو۔

﴿۴﴾..... سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کو برآمد کرنے والی کمپنیوں میں ذبح کے شرعی احکام اور کھانوں کی اقسام سے باخبر امانتدار مسلمان مقرر کئے جائیں، تاکہ وہ جانور ذبح ہونے کے عمل البرینیر بنانے اور گوشت کو پیک کرنے کے عمل کی نگہداشت کریں۔

جب یہودی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے لئے ان کے عقیدہ اور طریقے کے مطابق جانور ذبح ہوں، چنانچہ انہوں نے اپنے لئے مخصوص مذبح خانے اور عملہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو مسلمان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، کیونکہ گوشت اور مغربی کارخانوں کی پیداوار کے صارفین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور برآمد کرنے والے ممالک کو اپنے گوشت اور پیداوار کو مسلم ممالک کی طرف برآمد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

واللہ الموفق۔ وصلى الله على نبينا محمد

وآله وصحبه وسلم۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

صدر: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

نائب صدر: عبدالرزاق عقیفی

رکن : عبداللہ بن غدیان

رکن : عبداللہ بن قعود

بہر حال! ”ہیئۃ کبار العلماء“ کے مندوبین کی مندرجہ بالا رپورٹیں اور ”اللجنة الدائمة للجوث والافتاء“ کی مندرجہ بالا سفارشات اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ برآمد گوشت کے پیکٹ پر تحریر شدہ یہ عبارت کہ ”اسلامی طریقہ کے مطابق ذبح کیا گیا ہے“ یہ عبارت بالکل قابل اعتماد نہیں، لہذا جب تک قابل اعتماد ذرائع سے معلوم نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک اس گوشت کا کھانا جائز نہیں۔

اس بحث کے ذریعہ جن نتائج تک ہم پہنچے ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل

ہے:

بحث کا خلاصہ

﴿۱﴾..... ذبح کا معاملہ ایسے عام معاملات کی طرح نہیں ہے جو حکم شرعی کے ساتھ مقید نہ ہو، جیسے کھانا پکانے کا معاملہ ہے، بلکہ یہ ان امورِ تعبدیہ میں سے ہے جو قرآن و سنت میں بیان کردہ احکام کے تابع ہے، بلکہ ذبح کا معاملہ دین اسلام کے شعائر اور علامات میں سے ہے جس کے ذریعہ مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے:

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمّة اللّٰه ورسوله۔

یعنی جس شخص نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، تو یہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے۔

﴿۲﴾..... کوئی جانور چاہے ماکول اللحم ہو، اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک اس کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا جائے، جس کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

(الف)..... جن جانوروں کے ذبح کرنے پر قدرت ہے ان کی روح اس کے گلے کی رگوں کے کاٹنے کے نتیجے میں نکلے، البتہ رگوں کی کم از کم مقدار کے بارے میں فقہاء کا جو اختلاف ہے اسے ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔

(ب)..... ذبح کرنے والا عقلمند، باشعور مسلمان یا عیسائی یا یہودی ہو۔

(ج)..... ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔

لہذا اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑا گیا تو جمہور فقہاء کے قول کے

مطابق وہ جانور ”مردار“ کے حکم میں ہے، اس قول کی تائید ان نصوص سے ہوتی ہے جن کا ثبوت قطعی اور مدلول واضح ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھول کر چھوڑ دیا تو ایسا شخص معذور ہے اور اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ قول منسوب ہے کہ: متروک التسمیہ عامداً ان کے نزدیک حلال ہے، اس قول کی صراحت نہیں ملی، بلکہ ”کتاب الاہم“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات مذکور ہیں، وہ اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان کا قول حالت نسیان میں جانور کے حلال ہونے کا ہے، البتہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کے وقت استخفاً تسمیہ چھوڑ دے تو وہ جانور حرام ہوگا۔

﴿۳﴾..... اہل کتاب کا ذبیحہ اس لئے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ ذبح کے وقت قیود شرعیہ کا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ اہل کتاب مردار، گلا گھونٹ کر ہلاک کیا جانے والا جانور، پتھروں کے ذریعہ مارا ہوا جانور، وہ جانور جس کو درندے پھاڑ دیں، ان سب جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی مقدس کتابوں میں مذکور ہے، ان مقدس کتابوں کی عبارات ہم نے پیچھے تفصیل سے بیان کر دیں، نیز یہ کہ اہل کتاب ذبح کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اس وجہ سے ان کے ذبح کئے ہوئے جانور مسلمانوں کے ذبح کئے ہوئے جانور کی طرح سمجھے جاتے ہیں، مسلمانوں کے لئے ان کو حلال قرار دیا گیا ہے۔

﴿۴﴾..... اسی طرح مسلمانوں کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے

نکاح کو حلال قرار دیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ لوگ نکاح کے معاملات میں ان احکام کی پابندی کرتے ہیں جو اسلام کے نکاح کے احکام کے مشابہ ہیں۔ اس لئے شرعی لحاظ سے اس نکاح کے جواز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نکاح اسلام کے شرعی احکام کے مطابق ہو۔

لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ -

بلاجماع اس کے ساتھ مقید ہے کہ زوجین احکام شرعیہ کا التزام کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ -

بھی اس کے ساتھ مقید ہے کہ اس ذبح میں احکام شرعیہ کا التزام کیا گیا ہو، اس لئے کہ دونوں حکم ایک ہی سیاق و سباق میں وارد ہوئے ہیں۔

﴿۵﴾..... علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ ”جس جانور کا گلہ

اہل کتاب نے گھونٹ دیا ہو، وہ جانور حلال ہے“ خود ان کے اس قول سے معارض ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ”اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت حلال ہے جب وہ ذبح کے وقت احکام شرعیہ کا التزام کریں، لہذا ان کے دو متعارض قولوں میں سے اس قول کو لیا جائے گا جو نصوص صریحہ اور اہل علم کے اجماع کے موافق ہوگا۔

دوسرے یہ کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ ”اہل کتاب کا

مخنوقۃ جانور حلال ہے“ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ عیسائیوں کے مذہب میں مخنوقۃ جانور حلال ہے، لیکن عیسائیوں کی کتابوں میں اس کے خلاف ثابت ہے (یعنی یہ کہ مخنوقۃ جانور حلال نہیں) لہذا علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاذ قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

﴿۶﴾..... راجح یہ ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے ”تسمیہ“ اسی طرح شرط ہے جس طرح مسلمان کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے ”تسمیہ“ شرط ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

اپنی عمومیت کی وجہ سے مسلمان اور اہل کتاب دونوں کو شامل ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ اس آیت میں ”لَمْ يُذْكَرِ“ مجہول کا صیغہ ہے۔

﴿۷﴾..... ”اہل کتاب“ سے مراد وہ یہود اور نصاریٰ ہیں جو اپنے مذہب کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتے ہوں، اگرچہ اپنے مذہب کے باطل عقائد مثلاً تثلیث، کفارہ وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، لیکن جو اہل کتاب اللہ پر، رسول پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے اہل کتاب درحقیقت مادہ پرست ہیں، ان پر اہل کتاب ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اگرچہ مذہب کے خانے میں ان کے نام کے ساتھ یہودی اور نصرانی لکھا ہوا ہو۔

﴿۸﴾..... مسلمانوں کے علاقوں میں جو گوشت فروخت ہو رہا ہو، اگر اس کے ذابح کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح شدہ ہے اور اس گوشت کا کھانا حلال ہے، الا یہ کہ

اس گوشت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ذبح کرنے والے نے اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا تو اس صورت میں اس گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو ”اعراب“ کے ذبائح کے بارے میں منقول ہے۔

﴿۹﴾..... ”اہل کتاب“ کے بازاروں میں جو گوشت فروخت ہو رہا ہو، اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، والا یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ذابح اور کوئی ہے۔

﴿۱۰﴾..... موجودہ زمانے کے نصاریٰ نے ذبح کے معاملے میں شرعی پابندیوں کا طوق اتار دیا ہے، اور اپنے دین کے احکام پر عمل چھوڑ دیا ہے، چنانچہ ذبح کے معاملے میں وہ لوگ شرعی طریقے کا التزام نہیں کرتے، لہذا موجودہ دور کے نصاریٰ کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جب تک کہ کسی خاص گوشت کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کو نصرانی نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہے۔ لہذا نصاریٰ کے بازاروں میں فروخت ہونے والا وہ گوشت جس کے ذابح کے بارے میں علم نہ ہو، کھانا حلال نہیں۔

﴿۱۱﴾..... مرغیوں کو مشین کے ذریعہ ذبح کرنے میں شرعی لحاظ سے

مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں:

(الف)..... ذبح کرنے سے پہلے مرغی کو ایسے ٹھنڈے پانی میں ڈالنا جس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا

امکان ہے کہ وہ بجلی کے کرنٹ کے نتیجے میں مرچکی ہو۔

(ب)..... گھومنے والی چھری کے ذریعہ ذبح ہونے والی مرغیوں پر ”تسمیہ“ پڑھنا متعذر ہے۔

(ج)..... بعض حالات میں رگوں کے کٹنے میں شبہ رہنا۔

﴿۱۲﴾..... مندرجہ ذیل طریقوں سے مشینی ذبح کو شرعی ذبح کے لئے

اختیار کرنا ممکن ہے:

(الف)..... مرغی کو بیہوش کرنے کے لئے بجلی کے کرنٹ کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے، یا اس کرنٹ کو اتنا معمولی رکھا جائے جس کی وجہ سے یہ یقین ہو جائے کہ اس کرنٹ کے نتیجے میں ذبح سے پہلے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔

(ب)..... گھومنے والی چھری نکالی جائے اور اس کی جگہ پر چند افراد کھڑے کر دیئے جائیں جو ”تسمیہ“ پڑھ کر ذبح کرتے جائیں۔

(ج)..... وہ گرم پانی جس میں ذبح کے بعد مرغی کو گزارا جاتا ہے، وہ پانی جوش مارنے کی حد تک گرم نہ ہو۔

﴿۱۳﴾..... گائے اور بکری کو مشین کے ذریعہ ذبح کرنے پر مندرجہ

ذیل دو اعتراضات ہیں:

(۱)..... پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ طریقے جن کو جانور بیہوش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً پستول کا استعمال، کاربن آکسائیڈ گیس کا

استعمال، یا بجلی کے کرنٹ کا جھٹکا دینا وغیرہ، ان تمام طریقوں میں ذبح سے پہلے جانور کی موت واقع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لہذا ان طریقوں کو اس طرح معتدل کرنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان طریقوں میں جانور کو تکلیف نہیں ہوگی اور یہ کہ یہ طریقے جانور کی موت واقع ہونے کا سبب نہیں بنیں گے۔

(۲)..... دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس طریقے میں ذبح بعض اوقات رگوں کے کاٹنے کے ذریعہ نہیں ہوتا۔

اگر مندرجہ بالا دونوں اعتراضوں کے تدارک کا اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر ذبح کے لئے مشینی طریقے کو اختیار کرنا جائز ہے۔

﴿۱۳﴾..... غیر مسلم ممالک سے جو گوشت درآمد کیا جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اگرچہ اس گوشت کے پیکٹ پر صراحتاً یہ عبارت درج ہو کہ ”اسکو اسلامی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے“ کیونکہ یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ یہ شہادت قابل اعتماد نہیں، اور گوشت کے اندر اصل ”حرمت اور ممانعت“ ہی ہے۔

سفارشات

۱۔ مسلم ممالک کو چاہئے کہ وہ اپنے یہاں جانوروں کی پیداوار اور افزائش میں اضافہ کریں، تاکہ غیر مسلم ممالک سے گوشت درآمد

کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

۲- اور اگر کسی اسلامی ملک کو گوشت درآمد کرنے کی ضرورت ہو تو وہ صرف اسلامی ملک سے درآمد کرے۔

۳- جب تک اسلامی ممالک گوشت کے بارے میں خود کفیل نہ ہو جائیں، اس وقت تک حکومت گوشت درآمد کرنے والی کمپنیوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ علماء اور ماہرین کے وفود گوشت برآمد کرنے والی کمپنیوں میں بھیجیں، اور یہ وفود وہاں جا کر اس کا مطالبہ کریں کہ وہ جانوروں کے ذبح کے لئے ایسا طریقہ اختیار کریں جو شریعت اسلامیہ کے احکام کے موافق ہو، اور پھر ان ممالک میں ایسے غیر مند مسلمان مقرر کئے جائیں جو مستقل طور پر ذبح کے طریقے کی بااعتماد ذرائع سے نگرانی کریں اور جب تک ان کو مکمل طور پر اعتماد نہ ہو جائے، اس وقت تک ذبح شرعی کا سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں۔

نیز اجمالی طور پر اس طرح سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں کہ ”یہ گوشت حلال ہے“ یا ”اسلامی طریقے پر ذبح شدہ ہے“ بلکہ اس سرٹیفکیٹ میں ان تمام عناصر کی تصریح کریں جو ذبح شرعی کے لئے لازم ہیں، مثلاً یہ کہ ”یہ جانور مسلمان یا کتابی نے ذبح کیا ہے اور اس نے ذبح کے وقت تسمیہ بھی پڑھا ہے اور جانور کے حلال ہونے کے لئے جن رگوں کو کاٹنا ضروری ہے ان تمام رگوں کو اس نے کاٹا ہے۔“

۴۔ اسلامی حکومتیں ان گوشت درآمد کرنے والی کمپنیوں کو جو غیر مسلم ممالک سے گوشت درآمد کرتی ہیں، گوشت کے پیکٹ پر یہ مجمل عبارت کہ ”یہ گوشت حلال ہے“ درج کرنے سے منع کر دیں، جب تک وہ کمپنیاں گزشتہ نمبر میں بیان کردہ تمام شرائط پوری نہ کریں۔

۵۔ ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ ایک مجلس منعقد کرنے کا اہتمام کرے، جس میں مختلف علاقوں کے اسلامی ممالک کی گوشت درآمد کرنے والی کمپنیوں کے ذمہ داروں اور نمائندوں کو شرکت کی دعوت دے اور ان کے سامنے اس معاملے کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ اور اس بارے میں ”اکیڈمی“ کی سفارشات تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں۔

واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔



خطبات عثمانی

(۳ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

کے خطبات کا دوسرا مجموعہ:

خاص ایڈیشن : =/1200 روپے

عام ایڈیشن : =/800 روپے

میں امین الیومین

اصلاحی خطبات

(کمل ۱۸ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

کے ۲۳۹ خطبات پر مشتمل مقبول کتاب

خاص ایڈیشن : =/6300 روپے

عام ایڈیشن : =/4000 روپے

مہتاب پبلشرز

الولاية

شرح شرح الوقاية (مکمل ۴ جلدیں)

شرح اردو شرح الوقاية (آخرین)

وفاق المدارس کے نصاب میں شامل

”شرح وقایہ (آخرین) کی بہترین اردو شرح

قیمت: =/1100 روپے

میں اس بلا پبلشنگ

فقہی مقالات

(مکمل ۳۲ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد متقی عثمانی مدظلہ

کے ۳۷ مقالات پر مشتمل مقبول ترین کتاب

قیمت : =/900 روپے

اصلاحی مجالس

(۶ جلدیں)

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد متقی عثمانی مدظلہ

کی مجالس پر مشتمل اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لئے بہترین کتاب

قیمت : =/1260 روپے

بیمبلا پبلشرز